

خُداوند دا شُکر اے پئی اسی اَج فیر اکٹھے آں تاں پئی رل کے کجھ گل بات کر سکنیے۔ جیویں پئی
 تُسی جاندے او پئی اسی ایس ویلے زبوراں دے بارے گل بات کردے پئے آں۔ تے اَجے تیکر
 اسی اپنے ایس حصے دیاں پہلیاں تِناں زبوراں دے اُتے گل بات کیتی اے۔ تے ایس ویلے اسی
 چوتھے زبور دے بارے گل بات کرن والے آں۔ پر ایس توں پہلاں پئی اسی ایس گل بات نوں
 باقاعدہ طور تے شروع کریے میں چاہندا آں پئی اسی خُدا توں ایہدے لئی مدد منگنیے۔ او اسی
 دُعا کردے آں:

خُداوند خُدا مسیح یسوع دے وچ ساڈے اَسْمانی پئیو اسی دل دیاں دُہنگیاں توں تیرا شُکر
 کردے آں ایس سارے پیار دے لئی جیہڑا تُو ساڈے نال کردا ایں۔ تیرے پتر دی رائیں کیتے
 گئے سارے پیار دے لئی اسی شُکر ادا کردے آں جہدے وچ اسی ہمیشہ دی جیاتی پائی اے۔
 تیرا شُکر ادا کردے آں اوس وگائے لہو دے لئی جہدی رائیں اوس ملن والی سزا توں چھٹکارا پایا
 اے۔ ایویں سانوں اوہناں پاپاں دی وجہ توں اپنی ابدیت ہلاکت دے وچ نہیں لہنگاؤنی پیندی
 اے۔ تیرے پتر دے لئی شُکر یہ جہدے وچ اسی تیرے نال اک پکا، محفوظ تے پائیدار تعلق
 رکھدے آں۔ اوس بھروسے دے لئی جیہڑا اسی تیرے پتر دی رائیں تیرے اُتے رکھدے آں
 اسی تیرا شُکر ادا کردے آں۔ اسی حقیقت وچ ایس قابل نہیں آں پئی اسی ایس سارے کجھ
 دے لئی تیرا شُکر ادا کر سکنیے۔ ایس گل دے لئی شُکر یہ پئی اسی تیرے نال رہندیاں ہوئیاں
 راستی دی جیاتی بسر کر سکندے آں۔ تیرے پیارے پتر دی شبیہ دے لئی اسی تیرے شُکر گزار

آں جنوں تُو ساڈے اُتے ظاہر کیتا اے تے ایویں انسانی تاریخ نوں بدل کے رکھ دیتا اے۔ اسی منت کردے آں پئی اسی ایہدے وچ ہور بہتا اگے وہد سکئیے تے اوہدے وچوں تینوں پچھان سکئیے تے اسی ایس پچھان نوں دوجیاں تیکر وی پہنچا سکئیے۔ اسی منت کردے آں پئی ایس ویلے دے وچ کیتے گئے کلام دے اُتے تیری خاص برکت ہوئے۔ اسی ایہہ سارا کجھ تیرے سوہنے پتر ساڈے خُداوند یسوع مسیح دا ناں لیندیاں ہوئیاں منگ لیندے آں آمین۔

تے جیویں پئی اسی جاندا اے آں تے اسی پہلاں وی گل کیتی سی پئی اسی ایس ویلے چوتھے زبور دے بارے گل بات کرن والے آں۔ ایس توں پہلاں اسی تن زبوراں دے اُتے گل بات کیتی سی تے ہُن اسی چوتھے زبور نوں شروع کرن والے آں۔

تے تھانوں یاد ہوئے گا پئی اسی سب توں پہلاں پہلے زبور دے وچوں ویکھیا سی پئی اوہدے وچ اک مُبارک بندے دے بارے وچ گل کیتی گئی اے پئی او کیویں دا اے۔ تے خُدا دا بندہ داؤد اوہدے بارے دے وچ خُدا دی راہنمائی دے نال کیہڑیاں کیہڑیاں گلاں نوں بیان کردا اے۔

اوہدے بارے دے وچ اگھیا گیا اے پئی او اک اجھے بوٹے دے وانگر اے جیہڑا پانی دیاں نہراں دے نیرے لگایا گیا اے۔ جہدے توں مُراد اوہدی جیاتی دے وچ پائی جاوَن والی بھرپوری اے۔ او خُدا دے کلام دے وچ وہدا تے ترقی کردا جاندا اے۔ ایہدے توں مُراد بالکل وی ایہہ نہیں اے پئی اوہنوں اپنی جیاتی دے وچ کسی وی مُشکل دا ساہمنا نہیں کرنا ہوئے گا۔ سگوں ایہدے توں مُراد ایہہ ہے پئی اوہنوں اپنی جیاتی دے وچ جیہڑی وی مُشکل دا ساہمنا ہوئے گا

اوہدے وچ خُدا اوہدے نال ہوئے گاتے او اوہنوں کدی وی کلیاں نہیں چھڈے گا۔ ایویں او ہر طرح دے حالات دے وچ اک ہرے بھرے بوٹے دی وانگر رہوئے گا۔ تے ایویں پہلے زبور دے وچ اسی ویکھیا سی پئی جدوں ساڈا تعلق ساڈے خُدا دے نال ڈوہنگا ہندا اے مطلب ایہہ پئی ہاڈیاں جریاں خُدا دے وچ مضبوطی دے نال قائم ہندیاں نے تے سانوں ساڈی ساری جیاتی دے وچ اوہدے توں تقویت دے بھر پوری بلدی رہندی اے۔

تے ایہدے باجوں اسی دوجے زبور دے بارے گل بات کیتی سی تے او تھے اسی ویکھیا سی پئی قوماں، زمین دے حاکم تے بادشاہ اکٹھے ہوئے نے تاں پئی او خُداوند تے اوہدے مسیح دے خلاف صلاح مشورہ کرن۔ ایہہ مسیح خُدا دا پتر اے جہدے بارے او اتھے بیان کردا پیا اے۔ اوہنے اوہدے بارے دے وچ آپ آگھیا اے پئی تُو میرا سوہنا پتر ایں اُج تُو میرے توں جمیا ایں۔ ایویں ایس زبور دے وچ مسیح خُداوند دے ایس زمین اُتے آون دے بارے سانوں کجھ تفصیلات دا پتہ لگدا اے۔ تے تہانوں یاد ہوئے گا پئی اسی ایس زبور نوں کجھ حصیاں دے وچ ونڈ کے پڑھیا سی تے اسی ویکھیا سی پئی کیوں قوماں طیش وچ آئیاں نے تے کیوں زمین دے بادشاہ اکٹھے ہوئے نے؟ تے اسی ویکھیا سی پئی خُدا اوہناں دے اُتے ہسدا اے۔ او اوہناں نوں بیان کردا اے پئی میں تے اپنے بادشاہ نوں اپنے پاک پہاڑ اُتے بٹھا چکيا آں تے فیر ایہہ وی پئی دوجا زبور ایہدے بارے وچ ساڈا حوصلہ و ہداوندا اے پئی سانوں خُدا دے اُتے اپنا کامل توکل رکھنا چاہیدا اے۔ جیویں پئی ایس زبور دے اخیر دے وچ وی لکھیا ہویا اے پئی ڈردیاں

ہوئیاں خُدا دی عبادت کرو تے کمبدیاں ہوئیاں خوشی مناؤ۔ تے فیر ایہدے باہجوں وعدہ کیتے
ہوئے پتر یعنی مسیح دی آمد دے بارے وی ذکر پایا جاندا اے۔ جدوں او زمین اتے آوئے گاتے
اوہدی بادشاہی دے بارے وچ اتھے لکھیا ہويا اے پئی او تھے امن ای امن ہوئے گا۔ پر آج وی
بہت سارے لوکی نے جیہڑے اوہدی بادشاہی دے بارے دے وچ چنگی طرح سمجھ نہیں
رکھدے نے۔

تے فیر کجھ چر پہلاں اسی اگے وہدیاں ہوئیاں زبور ۳ اُتے دھیان کیتا اے۔ تے اسی ویکھدے
آل پئی ایہدے وچ داؤد دے اُتے اوہدے پتر ابی سلوم دی وجہ توں آون والی مُصیبت دا ذکر
پایا جاندا اے۔ کیوں جے اوہنے داؤد دے تخت دے اُتے قبضہ کرن دے لئی داؤد نوں مار
مُکاون دا فیصلہ کیتا سی۔ تے اسی ویکھدے آل پئی اوہدے اُتے آون والیاں ساریاں مُصیبتاں
وچ اوہدے سکھن دے لئی اک سبق پایا جاندا اے۔ اسی اوہدی جیاتی دے مختلف حالات دے
اُتے گل بات کیتی سی پئی اوہدے خاندان دے افراد، اوہدے یار تے اوہدے سردار اوہدے نال
کیویں پیش آوندے نے۔ تے کیویں اوہدی جیاتی دے وچ ہون والا اک بہت ای وڈا پاپ
اوہدے لئی نقصان دہ ثابت ہندا اے۔ خُدا اوہدے توں ناراض ہندا اے تے او اپنے بندے
ناتن دی رائیں اوہنوں اوہدے نال کلام کردا اے۔ ایہہ اوس ویلے دی گل اے جدوں داؤد نے
اپنے سپاہی اوریاہ نوں دھوکے دے نال قتل کروا دتا سی تاں پئی اوہدی بڈی نوں اپنی بڈی
بناوے۔ خُدا اوہنوں آکھدا اے پئی آج توں تلوار تیرے گھر توں کدی وی وکھ نہ ہوئے گی۔ تے

فیر اسی ویکھدے آل پئی اوہدے پتر ابی سلوم نے اوہدے وہڈے پتر امنون نوں قتل کر دتا سی
تے ایہدے باہجوں اوہنے داؤد دے تخت اُتے قبضہ کر دیاں ہوئیاں داؤد نوں مارن دی کوشش
وی کیتی سی۔ ایہہ او گلاں نے جنناں نوں اسی اوہدی جیاتی دے واقعات وچوں ویکھدے آل۔
پر اہم گل ایہہ ہے پئی او ایہناں ہر طرح دے حالات دے وچ اپنا توکل خُداوند اپنے خُدا
دے اُتے ای رکھدا اے تے خُدا اوہدی مدد کردا سی تے اوہنوں بحال کردا سی۔ او ایس زبور
دے اخیر دے وچ ایس گل دا اقرار کردا اے پئی نجات خُداوند دے ولوں اے تے او آکھدا
اے پئی تیریاں لوکاں دے اُتے تیری برکت ہوئے۔

تے اُج اسی اگے وہدیاں ہوئیاں لگے زبور یعنی چوتھے زبور نوں شروع کرن آوالے آل۔
ایتھے اسی ویکھدے آل پئی حالات بالکل ای وکھرے نے۔ اسی ایتھے اک راست باز جیاتی دے
بارے گل بات کراں گے تے ایہہ وی پئی خُدا کیہ چاہندا اے پئی اسی اوہدی خاطر کیہ کریئے۔
لوکاں دے نال خُدا دا پیار تے ایہہ وی پئی او ایس پیار نوں دو جیاں دے نال ونڈن۔ تے ایہہ
او گلاں نے جنناں نوں اسی ایس چوتھے زبور دے وچ ویکھاں گے۔ او اسی ایہنوں باقاعدہ طور
تے پڑھدے آل۔ میں ایتھے ایس زبور دا عبرانی زبان دے وچ کیتا ہویا ترجمہ وی پیش کراں
گا۔ جیویں پئی اسی عبرانی دے وچ ایہدا ترجمہ کردے آل تے اسی ایویں ویکھ سکدے آل پئی
ایتھے کیہڑیاں گلاں یا کیہڑے الفاظ نے جنناں دے اُتے بہتا زور دتا گیا اے۔

تے ایہدے وچ ساریاں توں پہلاں ایہدا ٹائٹل پایا جاندا اے۔ ایہہ او سرناواں اے جہنوں اسی
عبرانی دے وچ ایہدا لُب لباب آکھدے آں۔ تے جدوں اسی چوتھے زبور دے اُتے دھیان
کردے آں تے اوتھے ایویں لکھیا ہویا اے:

میرِ مُغنی دے لئی تار دار سازاں اُتے داؤد دا مزموور

جدوں میں سداں تے مینوں جواب دے اے میری صداقت دے خُدا!

تنگی دے وچ تُو مینوں کُشادگی بخشی۔ میرے اُتے رحم کرتے میری دُعا نوں سُن لے۔

اے بنی آدم! کدوں تیکر میری عزت دے بدلے رسوائی ہوئے گی؟

تُسی کدوں تیکر بطالت دے نال محبت رکھو گے تے چُوٹھ بولدے رہو گے۔

جان رکھو پئی دیندار نوں خُداوند نے اپنے لئی وکھ کیتا ہویا اے۔

جدوں میں خُداوند نوں سداں گاتے او سُن لیوئے گا۔

تھر تھراؤتے پاپ نہ کرو

اپنے اپنے بستر دے وچ دل وچ سوچو تے چُپ رہو

صداقت دیاں قُربانیاں گذرانو

تے خُداوند دے اُتے توکل کرو

بہت سارے آکھدے نے پئی کون سانوں کجھ بھلائی وکھائے گا؟

اے خُداوند تُو اپنے چہرے دا نُور ساڈے اُتے جلوہ گر فرما۔

تُو میرے دل نوں اوہدے توں بہتی خوشی دتی اے

جیہڑی اوہناں نوں غے تے مے دی فروانی توں ہندی اے۔

میں سلامتی دے نال لیٹ جاواں گاتے سو رہواں گا

کیوں جے اے خُداوند فقط تُو ای مینوں مُطمئن رکھدا ایں۔

سلاہ عبرانی زبان دالفظ اے پر میں نہیں جاندا آل پئی ایہدے توں کیہ مُراد اے۔ ایہہ شاید

عبرانی زبان دے وچ موسیقی دی اک اصطلاح اے۔ ہوسکدا اے پئی او ایہنوں ایس لئی

ورتدے ہون پئی جتھے آکے کھلونا اے اوتھے او سلاہ لکھ دیندے ہون گے۔

ایس زبور دے بارے وچ میں ایہہ ای آکھاں گا پئی ایہہ وی اوس ای دوران دا زبور اے جدوں

داؤد اپنے پتر ابی سلوم دی وجہ توں اپنے شہر نوں چھڈ کے نسیا سی۔ اسی دیکھیا سی پئی تیجا زبور

صُخ دا زبور اے تے چوتھا زبور شام دا زبور اے۔ تیجے زبور دے وچ لکھیا ہویا اے پئی میں

جاگ اُٹھیا کیوں جے خُداوند مینوں سنبھالدا اے۔ تے فیر چوتھے زبور دی انیری آیت دے

وچ لکھیا ہویا اے پئی میں سلامتی دے نال لیٹ جاواں گاتے ستر رہواں گا کیوں جے اے

خُداوند صرف تُو ای مینوں مُطمئن رکھدا ایں۔ پر ایہدے بارے وچ کوئی خاص ثبوت سانوں

نہیں بلدا اے۔ کیوں جے ہوسکدا اے پئی ایہہ اوہدے بارے وچ ہوئے جدوں ساؤل اوہدا

پتھرا کردا پیا سی یا ایہہ وی ہوسکدا اے پئی ایہہ اوس بارے دے وچ ہوئے جدوں او اپنے پتر

ابی سلوم دی وجہ توں نسیا سی۔ اسی در حقیقت یقین دے نال ایہدے بارے دے وچ کجھ وی

نہیں آکھ سکدے آں۔ کیوں جے ایہدے ٹائٹل دے اُتے وی ایہدے بارے دے وچ کجھ وی
 بیان نہیں کیتا گیا اے۔ پر اک گل جمدے اُتے اسی تیجے زبور دے اُتے دھیان کیتا سی او ایہہ
 ہے پئی خُدا نے داؤد نوں اوہدیاں ویریاں دے ہتھ وچ نہیں پین دتا سی۔ سگوں خُدا نے
 اوہنوں بحال کیتا سی تے اوہنوں دوبارہ اوہدی بادشاہی تے اوہدے تخت اُتے بحالی عطا کیتی
 سی۔ تے ایویں ایہہ ہوسکدا اے پئی اوہنے ایہہ زبور اوس ای ویلے لکھیا ہوئے تاں کلیسیا دے
 لئی اک راہنمائی ثابت ہوئے۔ تاں پئی لوکی ایہنوں اپنیاں جیتیاں دے وچ شخصی طور تے
 ورت سکن۔ ایویں اسی ایہدے بارے وچ صرف خیال کردے آں پر اسی ایہدے بارے دے
 وچ پُر یقین نہیں آں۔ اسی اپنے کول پائے جاوے والے تحریری مواد دے ول نوں دھیان
 کردے آں تے ویکھدے آں پئی اوہدے دوجے ورقے اُتے کجھ ایویں دیاں شیوں لکھیا ہویاں
 نے جیہڑیاں ایہنوں کجھ موسیقانہ بناوندیاں نے۔ بہت سارے لفظ نے جیہڑے عبرانی دے وچ
 رلدے ملدے پائے جاندے نے، تے بے شمار نظماں نے جیہڑیاں عبرانی دے وچ پائیاں
 جاندیاں نے۔ تے ایتھے ٹھاڈے کول موجود تحریری خاکے دے وچ جتھے ایہہ بیان کیتا گیا اے
 پئی میں سلامتی دے نال لیٹ جاواں گاتے میں سُتتا رہواں گا۔ تے ایہدے بارے وچ عبرانی
 ترتیب ایویں پائی جاندی اے پئی سلامتی دے نال میں لیٹ جاواں گاتے سُتتا رہواں گا کیوں
 جے تُو اے یہواہ صرف تُو ای میدنوں اپنی محافظت دے وچ قائم رکھیں گا۔ تے ایہہ او گلاں
 نے جنناں دا تئسی دھیان رکھ سکدے او جدوں تئسی عبادتخانے ایہدے تشریح سُندے او یاں

جدوں کوئی بندہ ایہدے بارے گل بات کردا ہوئے۔ ایویں تسی اوہناں لفظاں دے اُتے دھیان
کر سکدے اوہناں دے اُتے خاص طور تے زور دتا گیا اے۔ تاں معنییاں نوں وضاحت دے
نال جانیا جاسکے۔ تے جیویں پئی اسی پڑھیا اے پہلی آیت دے وچ ایویں لکھیا ہوئی اے:

جدوں میں سداں تے مینوں جواب دے اے میری صداقت دے خدا!

تنگی دے وچ تُو مینوں کُشادگی بخشی، میرے اُتے رحم کرتے میری دُعا سُن لے۔

اسی ویکھدے آں پئی زبور نویس ایتھے پہلی ای آیت دے وچ اپنیاں چار درخواستاں خدا دے

اگے پیش کردا اے۔ اسی جاندے آں پئی خدا ساڈیاں دُعاواں نوں سُندا اے تے اوہناں دا

جواب وی دیندا اے۔ تے ایویں داؤد وی اپنی مدد دے لئی خدا نوں سدا اے۔ او ایویں

کردیاں ہوئیاں خاص طور تے تسلی محسوس کردا اے، اوہنوں ایویں کرن دے نال اک خاص

سکون محسوس ہندا اے۔ ایتھے دھیان دتا جاوئے تے جیہڑا لفظ خدا دے لئی ورتیا گیا اے

اوبدے توں مراد یہواہ خدا نہیں اے۔ سگوں ایہہ او لفظ اے جیہڑا ایلوہیم خدا دے لئی ورتیا

جاندا اے تے جمدے توں اوبدی بادشاہی ظاہر ہندی اے۔ ایہہ ایس گل نوں ظاہر کردا اے

پئی خدا دی بادشاہ آسمان تے زمین دے وچ قائم اے۔ پر جتھوں تیکر اسی خدا دے ناہ یہواہ

دے بارے گل بات کیتی سی تے ایہہ اصل وچ خدا بہت ای پاک ناں اے۔ پُرانے عہد نامے

دے وچ لوکی بچیاں دے ناں ایہہ سوچ کے رکھدے سن پئی اوہناں دے ناواں دا اوہناں دیاں

جیاتیاں دے اُتے ڈاہڈا اثر ہندا اے۔ ایویں تہاڈے ناں دی مُناسبت دے نال تہاڈے بارے

وچ خیال کیتا جاندا اے۔ کجھ لوکی ایہنوں ایہناں معنییاں دے وچ وی لیندے نے پئی کسی
 وی تعلق نوں شروع کرن توں پہلاں ناواں دے بارے دھیان کیتا جاندا سی۔
 تے اسی پُرانے عہد نامے دے وچوں ویکھدے آں پئی خُدا نے اپنے آپ نوں ابرہام دے اُتے
 اپنے ایس ناں دے نال ظاہر کیتا سی تے اوہنوں ایس گل دی آگاہی بخشی سی پئی ایہہ ای او
 ناں اے جمدے توں اوہنوں آون والے ویلے دے وچ سدیا جاوے گا۔ خُدا نے اپنے آپ نوں
 اپنے بندے ابرہام دے اُتے اپنے اصلی ناں توں ظاہر کیتا سی۔ اوہنے اوہنوں آگیا پئی میں جو
 ہاں سو ہاں۔ پر خُدا دا جیہڑا لقب اے جمدے توں اسی اوہنوں سدے آں او لیلوہیم اے
 جمدے توں اسی اوہنوں سدے آں۔ جمدے وچ خُدا ساڈے اُتے بطور انصاف کرن والے
 دے ظاہر ہندا اے۔ جے پُرانے عہد نامے دے وچ ویکھیا جاوے تے ایہہ لفظ یہودی بزرگاں
 دے لئی وی ورتیا جاندا رہیا اے۔ او لوکاں دی راہنمائی دا کم کردے سن تے او قوم دے
 بزرگ اکھواندے سن۔ اوہناں نوں وی لیلوہیم آکھ کے سدیا جاندا سی کیوں جے او لوکاں دا
 انصاف کردے سن۔ ایہدے بارے دے وچ ایویں وی لکھیا ہويا بلدا اے پئی جے قوم دیاں
 بزرگاں نوں لیلوہیم دے ناں توں سدیا جاسکدا اے تے خُدا دے پتر نوں خُدا دا پتر کیوں نہیں
 آگیا جاسکدا اے؟ تے ایویں یاد رکھو پئی یہودی راہنماواں وچوں کجھ نوں لیلوہیم آگیا جاندا سی
 جمدے توں مُراد اک انصاف کرن والا اے۔ جدوں کوئی گورنر، کوئی مُنصف یا کوئی بادشاہ

ہیکل دے وچ موجود ہندا اے تے اوہنوں اک اُستاد یا اک کاہن توں وہد کے خیال کیتا جاندا سی۔

تے جدوں ایس چوتھے زبور دی پہلی آیت دے وچ خُدا دا بندہ داؤد ایویں بیان کردا اے پئی اے میری صداقت دے خُدا تے او اصل دے وچ لیلوہیم دے بارے آکھدا ہندا اے۔ جے اسی لفظ صداقت دے بارے گل کریے تے ایہدا تعلق صدق دے نال جا بلدا اے جمدے توں مُراد راستی، انصاف تے او کم نے جہناں توں انصاف تے راستی دا بول بھالا ہندا اے۔ ایس لفظ نوں اخلاقی تے معاشرتی طور تے خاصی اہمیت حاصل اے۔ تے ایویں راستبازی اک قانونی حیثیت رکھدی اے کیوں جے ایہدے وچ رحم تے مہر پایا جاندا اے۔ ایہہ بھلیائی دیاں کماں نوں ظاہر کردی اے۔ داؤد نوں وی راستباز آکھیا گیا سی جمدی وجہ اوہدے کیتے گئے کم سن۔ تے اسی ویکھیا اے پئی خُدا نے اوہنوں مسح کیتا سی پئی او اوہدی قوم اسرائیل دا بادشاہ بنے۔ ایویں او خُدا یعنی لیلوہیم دی سرپرستی دے وچ اسرائیل دے اُتے حکومت کردا ہندا سی۔ تے او لوکاں دے سامنے خُدا یعنی لیلوہیم دی نمائندگی کردا ہندا سی۔ تے اوہدی ضرورت سی پئی او جتھے لوڑ پیندی سی راستی نوں عمل وچ لیاندا سی۔ تے جتھے خُدا دی مرضی ہندی سی او رحم کردا ہندا سی۔ او راستی دے نال اپنے خُدا دی مدد دے نال لوکاں نوں انصاف مہیا کردا ہندا سی۔ تے اتھے ایہدی پہلی آیت دے وچ اک سوہنی گل ایہہ پائی جاندی اے پئی او خُدا نوں مخاطب کردیاں ہوئیاں ایہہ نہیں آکھدا پیا سی پئی اے راستی دے خُدا سگلوں او آکھدا

اے پئی اے میری صداقت (راستی) دے خُدا۔ ایتھے سانوں ایہہ بحث نہیں بلدی اے پئی
 داؤد راستباز ہے یا نہیں سگوں اسی ایہہ ویکھدے آں پئی خُدا راستباز اے۔ ایس لئی او آکھدا
 اے پئی اے میری راستبازی دے خُدا۔ ایویں اسی ایہہ اخذ کردے آں پئی داؤد دی ساری
 راستبازی تے اوہدی ساری انصاف پسندی دا سرچشمہ خُدا دی ذات اے۔ او اوہدے وچ قائم
 اے تے اوہدی ساری راستی تے صداقت سانوں داؤد دی حیاتی دے وچوں نظر آوندی اے۔
 ایویں صداقت اک قانونی چیز اے تے جے میں اسرائیل دے عدالتی نظام دے وچ ہندا تے
 میں وی اک راستباز ہندا۔ میں انصاف کرن والے دے کول جاندا تے او میرے بارے وچ
 پڑتال کردیاں ہوئیاں مینوں راستباز ٹھہرا سکدا سی۔ تے ایس سارے کجھ نوں بیان کرن توں
 مراد ایہہ ہے پئی راستباز ہون تے راست باز ٹھہرائے جاون دے وچ اک فرق پایا جاندا اے۔
 تُسی اصل وچ راستباز اوہدوں بندے او جدوں تہانوں راستباز ٹھہرایا جاندا اے۔ جے اسی نویں
 عہد نامے دے وچ ویکھدے آں تے جدوں میں عبادتخانے دے وچ جاندا سی تے او تھے
 گزرانیاں ہوئیاں میریاں قربانیاں دی وجہ توں مینوں راستباز ٹھہرایا جاندا سی۔ تے ایویں نویں
 عہد نامے دے وچ اک بندے نوں راستباز ٹھہرایا جاندا سی۔ پر ایہدے توں مراد بالکل وی
 ایہہ نہیں اے پئی میں پاک آں تے میں ساریاں پاپاں توں مُبرا آں یا فیر مینوں ایہناں
 ساریاں توں مُعافی مل گئی اے۔ سگوں ایہدے توں مراد او معصومیت اے جیہڑی تہانوں خُدا
 دے ولوں بلدی اے۔ جیویں پئی اسی نویں تے پُرانے عہد نامے دے وچوں راستبازی دے

تعلق دے نال ویکھیا اے۔ پُرانے عہد نامے دے شریعت دے وچ ایہہ ہے پئی جے کوئی بندہ
پاپ کردا سی تے اوہدے لئی اک جُرمانہ مُقرر ہندا سی جنہوں ادا کردیاں ہوئیاں او بندہ رہائی پا
لیندا سی۔ ایویں او بندہ فیر بحال ہو جاندا سی کیوں جے اوہدی غلطی دا قانونی طور تے ادا ہون
والا جُرمانہ ادا ہو چکیا ہندا اے۔

اسی پہلاں وی گل کیتی سی پئی صداقت لفظ صدق وچوں نکلیا اے تے اسی سارے بڑی چنگی
طرح دے نال ملک صدق توں واقف آں۔ ملک توں مُراد بادشاہ اے تے صدق توں مُراد
راستبازی اے۔ ایویں او راستبازی دا بادشاہ اکھواندا اے۔ تے ایس ساری گل بات توں اک
گل جیہڑا واضح ہندی اے او ایہہ ہے پئی راستبازی اک قانونی حیثیت رکھدی اے۔

ایس ای آیت دے دوجے حصے دے ول نوں وہدے آں تے اسی ویکھدے آں پئی او تھے ایویں
لکھیا ہو یا اے پئی تنگی دے وچ تُو مینوں کُشادگی بخشی۔ میں پُرانے عہد نامے نوں پڑھدیاں
ہوئیاں ایس گل دا بہت واری تجربہ کیتا اے۔ خُدا جدوں سانوں تنگی دے وچ کُشادگی دیندا
اے تے او ساڈیاں اوہناں کماں نوں ادھے گھنٹے دے وچ کر دیندا اے جنہاں نوں کرن دے
لئی عام طور تے سانوں ڈیڑھ گھنٹا چاہیدا ہندا اے۔ اوس ویلے جدوں اسی دباؤ دا شکار ہندے
آں جدوں سانوں بہت ساریاں کماں نوں اکھے ویلے دے وچ پُوریاں کردیاں ہوئیاں اپنیاں
ذمہ داریاں نوں نبھانا ہندا اے۔ جدوں میں ایہناں حوالیاں نوں پڑھدا آں تے میں بہت ای
تسلی پاؤندا آں خاص طور تے جدوں میں ایہہ پڑھدا آں پئی اوہنے میرے پیر کھلی تھال اُتے

کھے نے، مطلب ایہہ پی اوہنے مینوں کھلون دے لئی کھلی تھیں مہیا کیتی اے۔ کیوں جے اسی
 اسرائیلی تاریخ نوں ویکھئے تے اوہناں نوں بہت ای تنگ راہواں تے چلنا پیندا سی۔ پر خدا
 نے اپنے وعدے دے مطابق اوہناں نوں وسن دے لئی اک کھلاتے وڈا ملک دتا سی۔ تے
 اوہناں نوں برکتاں دیندیاں ہوئیاں اوہناں نوں اک خوشحال قوم بنا دتا سی۔ تھی سوچ سکدے
 اوہی تھی اک ڈھلوان سطح اُتے اُتے اُتے ہوو تے ایہہ ہوسکدا اے پئی تھی تنگ جاؤ۔ پر
 ایہدے اُلٹ جے تھی کسے کھلی تھیں اُتے کھلوتے ہوو تے تے تھی کدی وی نہیں تلوگے
 سگوں تھی اپنی مرضی دے مطابق کم کر سکدے او۔ ایس ای لئی داؤد آکھدا اے پئی تو مینوں
 کھلی تھیں تے کھلاریا اے۔ پر میں اک گل ہو وی کرنا چاہواں گا پئی کدی کدی اسی خدا توں
 ایس گل دے لئی وی دُعا کردے آں پئی خداوند تو مینوں کُشادگی بخش پر کئی واری ایویں
 نہیں ہندا اے۔ پر اوہر ویلے ساڈے نال ہندا اے، بھائی اسی کھلی تھیں ہوئے یاں اسی
 تنگ تھیں اُتے او ساڈے نال ہندا اے تے سانوں سنبھالدا اے۔

اگے وہدے آں تے ویکھدے آں پئی اگلے حصے دے وچ ایویں لکھیا ہويا اے پئی میرے اُتے
 رحم کرتے میری دُعا نوں سُن۔ پُرانے تے نویں عہد نامے دے وچ رحم دا لفظ بہت واری پایا
 جاندا اے۔ بہت سارے لوکی سن جیہڑے اپنے بچیاں دا ناہ ایہدے مطلب دے نال رکھدے
 سن جیویں پئی خنہ جہڑا پئی جینہ توں نکلیا اے جیہڑا عبرانی دے وچ رحم دے لئی ورتیا جاندا
 اے۔ نویں عہد نامے دے وچ ایہنوں فضل دے معنیاں دے وچ وی ورتیا جاندا اے۔ تے

فضل او شے اے جمدے اسی حقدار نہیں ہندے آل پر او فیروں سانوں مل جاندی
 اے۔ ایویں ایہہ بخشش دیاں معنیاں دے وچ آوندی اے۔ پر جدوں اسی رحم دے بارے وچ
 گل کردے آل تے اسی ایہدے حقدار ہندے آل، ساڈے اُتے رحم کیتا جاندا اے۔ ایویں
 رحم تے فضل دے معنیاں دے وچ کجھ اختلاف پایا جاندا اے۔ فضل ایہہ ہے پئی جدوں اسی
 پاپی ای سی تے مسیح ساڈیاں پاپاں دی خاطر مویا سی۔ بھاویں جے اسی ایس لائق سی پئی اسی
 اپنی ابدیت ہلاکت دے وچ لنگاوندے پر اوہدے فضل دی رائیں اسی ہمیشہ دی جیاتی پائی
 اے۔ ایہہ خُدا دا فضل اے پئی اوہنے سانوں قبول کیتا اے۔ ایہہ او گل اے جمدی اک
 انسان ہندییاں ہوئیاں توقع نہیں کیتی جاسکدی اے۔ ایہہ اصل وچ او سب اے جمدی اسی
 خواہش کردے آل تے اسی سوچدے آل پئی کاش ایہہ ایویں ای ہو جاوے۔ ایویں فضل اصل
 وچ اک بہت ای سوہنا لفظ اے جمدی اطلاق بہت ای مقدس معنیاں دے وچ ہندا اے۔ ہر
 اک بندہ جیہڑا خُدا دے گھر وچ رہندا اے او ایس فضل تیکر پہنچ رکھدا اے۔
 اگے وہدے آل تے ویکھدے آل پئی ایس چوتھے زبور دی دوجی آیت دے وچ ایویں لکھیا ہویا
 اے:

اے بنی آدم کدوں تیکر میری عزت دے بدلے رسوائی ہندی رہوئے گی؟
 تھی کدوں تیکر بطالت دے نال محبت رکھو گے تے جھوٹ بولدے رہوؤ گے؟

ایتھے ساڈے لئی جیہڑی گھگ دھیان کرن لئی اے او ایہہ ہے پئی ایہہ آیت ایویں شروع ہندی
 اے، اے بنی آدم! ایہدے توں مراد اے آدم دے پتروں۔ ایہہ کوئی عام لفظ نہیں اے۔
 ساڈے کول پائے جاوے والے تحریری مواد دی لو دے وچ ویکھیا جاوے تے چوتھے صفحے اُتے
 ایہدے بارے دے وچ بیان کیتا گیا اے۔ ایہہ او لفظ اے جیہڑا ہر اک انسان دے لئی
 استعمال کیتا جاسکدا اے۔ اسی جاندے آں پئی ایس زبور دے شروع دے وچ ای زبور نویس
 خدا دے حضور دے وچ اپنیاں دُعاواں نوں پیش کردا اے۔ تے ایس ویلے جیہڑی گل کیتی
 جاندی پئی اے اوہدا تعلق انساناں دے نال ای اے۔ اسی کجھ مضموناں دے وچ لفظ بن دے
 اُتے دھیان کیتا سی۔ ایویں ای ایہہ لفظ بنی وی ایہدے وچوں ای نکلیا اے۔ بن دا لفظی معنی
 پتر اے جیویں پئی بن حر یعنی حر دا پتر تے فیر بیختم یعنی میرے سبج ہتھ دا پتر۔ جدوں اسی
 ایس لفظ نوں عبرانی زبان دے وچ ویکھدے آں تے او تھے ایہدے توں مراد جمیا ہویا اے۔
 اسی آکھدے آں پئی شمعون بن یوحنا یعنی شمعون جیہڑا پئی یوحنا توں جمیا اے۔ ل عبرانی دے
 وچ اسی ایہنوں بن یوحنا آکھاں گے۔ ایویں ایہہ لفظ کسے دے پئیو دی نشاندہی کردا اے پئی
 فلاں بندہ فلاں دا پتر اے۔ آیت وچ لکھیا اے پئی بنی آدم تے ایہہ آدم دا لفظ آدمی دے لئی
 ورتیا گیا اے۔ ایہہ لفظ پیدائش دی کتاب دیاں پہلیاں دو باباں دے وچ پائے گئے نے۔ اوہنے
 آدم نوں بنایا سی تے فیر اوہنے آدم دے وچوں حوا نوں بنایا سی۔ بھاویں جے ایہہ دونویں ای
 انسان سن پر آدم دے بارے دے وچ لکھیا ہویا اے پئی خدا نے اوہنوں اپنی صورت تے پیدا

کیتا سی۔ ایویں خُدا نے آدم یعنی انسان نوں بنایا سی جمدے توں ایہہ لفظ انسانیت نکلیا اے۔
 پر جدوں اسی اتھھے بیان کیتے گئے لفظ نوں زبور نویس دے نقطہ نگاہ دے نال دیکھدے آں تے
 عبرانی زبان دے وچ اتھھے بیان کیتے گئے ایس لفظ توں مُراد امیر بندے نے۔ اجھے لوک
 جیہڑے رئیس ہون، جیہڑے سورے ہون تے جیہڑے مُعاشرے دے وچ اک پنگاناں
 رکھدے ہون۔ اسی ہور دھیان کریئے تے اوہناں دے وچ او لوک وی شامل ہندے نے
 جنہاں نوں قوم دیاں بزرگاں تے سرداراں دے وچ شمار کیتا جاندا اے۔ جدوں اسی ابی سلوم
 دے بارے دھیان کردے آں تے اوہنے یروشلیم، ججہ تے اسرائیل دیاں بہت ساریاں
 سرداراں نوں اپنے نال رلا لیا سی۔ تے فیر اوہنے اپنے پیو داؤد دے خلاف بغاوت کیتی
 سی۔ ایویں ای اسی ساؤل دے بارے وچ وی پڑھدے آں پئی جدوں اسرائیل دے اُتے کوئی
 وی بادشاہ حکومت نہیں کردا سی تے اسرائیل دیاں سرداراں تے بزرگاں نے سموئیل دے
 کول جا کے اوہدے توں درخواست کیتی سی پئی ساؤل دے اُتے اک بادشاہ مُقرر کر۔ ایس توں
 پہلاں سموئیل ای اوہناں دا انصاف کردا ہندا سی تے او خُدا دا چنیا ہویا تے پسندیدہ بندہ سی۔
 خُدا اوہنوں پیار کردا سی تے اوہدے نال ہمکلام ہندا سی۔ اسی دیکھدے آں پئی پہلے سموئیل
 دے ۱۳ باب دیاں پہلیاں ۸ آیتیاں دے وچ ایویں لکھیا ہویا اے:

او لوک یعنی سارے اسرائیلی بزرگ جمع ہو کے رامہ وچ خُداوند دے بندے سموئیل دے کول
 آئے سن۔ تے اوہناں نے اوہنوں آگھیا پئی دیکھ تُو بڈھا ہو گیا ایں تے تیرے پتر تیری راہ اُتے

نہیں تُردے نے ایس لئی تُو ساڈے اُتے کوئی بادشاہ مُقرر کردے جیہڑا ہور قوماں دی طرح
 ساڈا انصاف کرے۔ تدوں خُداوند نے اوہنوں آکھیا پئی اوہناں نے تیری نہیں سگوں میری
 حقارت کیتی اے پئی میں اوہناں دا بادشاہ نہ رہواں۔ ایس لئی تُو اوہناں نوں آکھ دے پئی
 جیہڑا اوہناں دے اُتے بادشاہ ہوئے گا او اوہناں دے نال کیویں دا سلوک کرے گا۔ تے
 سموئیل نے اوہناں لوکاں نوں جیہڑے اوہدے توں بادشاہ منگدے سن او ساریاں گلاں آکھ
 دتیاں۔ تے ایہہ وی پئی خُداوند آکھدا اے پئی تھی اوس دیہاڑے اوس بادشاہ دے سببوں
 جنوں تھی اپنے لئی چُنیا ہوئے گا فریاد کرو گے پر خُداوند تہانوں اوس دن جواب نہیں دیوئے
 گا۔ تاں وی لوکاں نے سموئیل دی گل نوں نہ منیا تے آکھن لگے پئی نہیں اسی تے بادشاہ
 چاہندے آں جیہڑا ساڈے اُتے ہوئے۔

ایویں ایہہ اسرائیلی بزرگ نے جنناں دے بارے دے وچ سانوں زبور ۴ دی دوجی آیت دے
 وچ لکھیا ہو یا بلدا اے۔ جنناں دے بارے دے وچ ای اتھے سانوں ایہہ لکھیا ہو یا بلدا اے پئی
 کدوں تیکر میری عزت دے بدلے رسوائی ہوئے گی؟ کیوں جے اوہناں لوکاں نے ابی سلوم
 دے نال رل کے داؤد دے خلاف کیتی گئی سازش دے وچ شرکت کیتی سی تے داؤد دی
 عزت نوں پائمال کیتا سی۔ تے او اوہناں نوں اتھے ایہہ دسن دی کوشش کردا اے پئی خُداوند
 نے تہانوں ایہہ کرن دے لئی نہیں آکھیا اے۔ ایس لئی تھی کدوں تیکر ایویں کردے رہوؤ

گے۔ تسی ایویں کردے پئے او تے ایہہ ٹھیک نہیں اے، ایہہ پاپ اے۔ تسی کدوں تیکر
ایہہ پاپ کردے رہو گے؟ کدوں تیکر میری عزت دے بدلے رسوائی ہندی رہوئے گی؟
تے فیرا گلے ای حصے دے وچ بیان کیتا گیا اے:

تسی کدوں تیکر بطالت دے نال محبت رکھو گے تے چوٹھ بولدے رہوؤ گے؟
بطالت نوں ایویں دیاں معنیاں دے وچ بیان کیتا جاندا اے جمدے توں کجھ وی حاصل نہیں
ہندا اے۔ ایہدے توں کوئی وی کم نہیں لیا جاسکدا اے۔ ایہہ بے پھل ہندی اے، ایہدے
توں اطمینان نہیں ہندا اے، ایہہ کجھ وی نہیں اے تے ایہنوں کسے وی طور تے مثبت
معنیاں دے وچ نہیں لیا جاسکدا اے۔ تے داؤد ایس ای گل توں حیران اے پئی ایہہ تے
اک بے کار شے اے فیر ایہہ لوک کیوں ایس گل ول نوں وہدے جاندا پئے نے۔ ایویں
گدا اے جیویں پئی اوہناں دیاں اکھیاں دے اُتے کسے نے پئی بنھ دتی اے۔ تے او اس
صورت حال نوں بیان کردا اے پئی او جنگ دے لئی تیار نے پر کیہ او نہیں جاندا نے پئی
ایہدے پچھے کیہ واجہ پائی جاندا اے؟ او کیوں ایویں کردے پئے نے؟ او اصلیت نوں نہیں
جاندا نے۔ اوہناں دے ای بارے داؤد ایہہ آکھدا اے پئی

اے بنی آدم! کدوں تیکر میری عزت دے بدلے رسوائی ہوئے گی؟

تسی کدوں تیکر بطالت دے نال محبت رکھو گے تے چوٹھ دے درپے رہوؤ گے؟

تے اصل وچ ایس سوالیہ فقرے دے وچ اک درخواست پائی جاندی اے۔ تے جیویں اسی اگلی آیت دے ول نوں وہدے آں تے اوتھے وی اسی ایس گل نوں ویکھ سکدے آں پئی او اہے تیکر اوہناں لوکاں دے نال ای گل کردا پیا اے۔ او سی ویکھدے آں پئی تیجی آیت دے وچ ایویں لکھیا ہويا اے:

جان رکھو پئی خُداوند نے دیندار نوں اپنے لئی وکھ کیتا ہويا اے

جدوں میں خُداوند نوں سداں گاتے او سُن لوئے گا۔

او اوہناں آکھدا اے پئی ٹھیک جے تسی میری مخالفت کرنا بند نہیں کرو گے تے جے تسی میرے خلاف اکٹھے ہوئے او پئی مینوں جان توں مار دیوؤ تے ایہہ آکھدے او پئی خُدا دے ولوں میری مُک نہیں اے تے میں تہانوں ایس گل توں خبردار کردا آں پئی تسی وی ایہہ جان لوؤ پئی خُداوند میرے نال اے۔ تسی میرے کول نہیں آسکدے او تے میرا کجھ وی نہیں وگاڑ سکدے او۔ کیوں میں خُدا دے لئی خاص آں، تے یاد رکھو پئی نہ صرف داؤد سگوں ساڈے وچوں ہر اک خُدا دے لئی خاص اے۔ اوہنے مینوں چُنیا اے تے اپنی قوم دا بادشاہ ہون دے لئی مسح کیتا اے۔ او آکھدا اے پئی خُداوند میری جیاتی دا محافظ اے۔ جے میں اوہدے خلاف کجھ غلط کیتا اے تے میں اوہدے اگے جوابدہ آں۔ پر میں تہانوں ایہہ دسنا چاہندا آں پئی خُداوند نے مینوں اپنے آپ دے لئی وکھ کیتا اے پئی میں اپنی قوم دا بادشاہ ہواں، اوہدی قوم دا نبی ہواں، تے اوہدی قوم دی اصلاح دے لئی اوہناں نوں خُداوند دے

حکم سکھاں سکاں۔ ایویں ای اَج وی خُداوند نے ساڈے وچوں ہر اک نوں چُنیا ہویا اے تے او ای سانوں اپنے نال نوں جلال دیوں دے لئی وکھریاں وکھریاں شعبیاں دے وچ ورتدا پیا اے۔ او بیان کردا اے پئی بھاویں جے میں ایس ای حالت دے وچ آں پر تاں وی میں اوہدے نال اک خاص تعلق دے وچ بنھیا ہویاں آں۔ تے یاد رکھو پئی اسی وکھ کرن نوں مخصوص کرن دیاں معنیاں دے وچ لیندے آں۔ پر ایتھے بیان کیتا جاوَن والا لفظ وکھری طرح دے نال ورتیا جاندا اے۔ نویں عہد نامے دے وچ وکھرا کرنا، پوتر کرنا تے مخصوص کرن نوں اسی ایہناں معنیاں دے وچ ویکھ سکدے آں۔ پر ایتھے اسی ویکھ سکدے آں پئی خُدا نے اوہنوں یہودیوں دے وچوں اپنے لئی وکھ کیتا سی۔ او جاندا سی پئی او خُدا دی نظر وچ کیہ اہمیت رکھدا اے۔ ایس لئی او آکھدا اے پئی خُدا نے مینوں اپنے لئی وکھ کیتا ہویا اے۔

جے ای پوتر کیتے جاوَن اُتے دھیان کریئے تے سب توں پہلاں جیہڑی گل ایہدے وچ بلدی اے اوہدے مطابق پہلی قسم دا وکھ کیتا جانا مذہبی طور تے ورتیا جاندا اے۔ اسی ایہنوں پاک معنیاں وچ لیندے آں، عالم ایس گل نوں جاندے نے پئی ایتھے خُدا دا اوہنوں وکھ کرنا بالکل ایہدے برابر سی پئی جیویں خُدا اک سردار کاہن نوں وکھ کردا اے۔

ہوسکدا اے پئی خُدا تہانوں وکھ کردیاں کسی وی شعبے دے وچ لے جاوئے۔ تھی کمپیوٹر سکھا سکدے او، تھی دکاندار بن سکدے او، ایویں تھی کسے وی شعبے دے نال منسلک ہوسکدے او۔ پر اہم گل ایہہ ہے پئی خُدا تہاڈے نال ہوئے گاتے او تہانوں ہمیشہ دے لئی تبدیل

کردیاں ہوئیاں اپنے لئی وکھ کرلیوئے گا۔ تے ایسہ ایس حوالے وچوں پہلی گل اے جمنوں اسی پاک کیتے جاون دے معنیاں دے وچ لیندے آں۔

تے دوجی گل جہڑی اسی ایس تعلق دے نال ویکھدے آں اوہدے وچ اسی اوس وکھ کیتی جاون والی شے نوں خاص طور تے ویکھدے آں۔ اسی اوہدے بارے دے وچ خاص طور تے ہر اک گل دا دھیان رکھدے آں۔ اسی اوہدے بارے دے وچ کجھ وکھری طرح دا رویہ رکھدے آں، اسی اوہدے نال خاص برتاؤ رکھدے آں۔ بالک ایویں ای جیویں اسی کسے اجے بندے دے نال اپنے تعلقات دے وچ ہندے آں جمنوں اسی بہت ای پیار کردے تے اسی اوہنوں عام انساناں توں وہد کے جاندے آں۔ تے بہت تھاواں تے ایسہدے لئی لفظ شاندار ورتیا گیا اے۔ بھاریں بے ساڈے تعلقات ہر اک دے نال چنگے ہونے چاہیدے نے پر کجھ لوکاں دے نال ساڈے تعلقات دے وچ اک گر مجوشی پائی جاندی اے۔

ایسہدے توں مراد ایویں دے لوکی لئے جاندے نے جمنوں نوں بادشاہ تیکر رسائی حاصل ہوئے تے جہڑے اوہدے رازاں نوں جاندے ہون۔ جمنوں نوں ایسہ شرف حاصل ہوئے پئی او اوہدی نگاہ دے وچ اہم جانے جاندے ہون۔

ایسہدے باہجوں تیجے نمبر تے جیہڑے لوکی ایسہدے وچ شامل ہندے نے او وفادار اکھواندے نے۔ کیوں بے خدا وفادار اے ایس لئی او اجییاں لوکاں نوں وی پسند کردا اے جیہڑے اوہدے نال وفادار ہندے نے۔ خدا اوہناں نوں اپنیاں پاک گلاں نوں دسدا اے۔ یاد رکھو پئی

ایہدے توں مُراد کدی وی او لوکی نہیں نے جیہڑے اپنے سارے دل تے اپنی ساری جاں
توں خُداوند دے نال پیار کردے نے۔ سگوں ایہہ او لوکی نے جنہاں نوں خُدا وفادار جاندیاں
ہوئیاں اپنے لئی وکھ کُردا اے۔ ایویں دیاں لوکاں دے وچ خُدا دے لئی پائے جاون والے پیار
دے وچ اک وفاداری پائی جاندی اے۔ تے تئسی جو کُجھ وی کردے او یاں جو کُجھ وی آکھدے او
اوہدے وچ اک سچائی تے وعدے پاسداری پائی جاندی اے۔ ایہہ بندہ اپنے وعدے دے وچ
سچائی تے پاسداری دا دھیان رکھدا اے جیہڑا اپنی خُدا دے لئی اوہدے وکھ کیتے جاون نوں ظاہر
کُردا اے۔ ایہہ او جنہوں اسی آکھ اُکدے آں پئی ایہہ خُدا دا بندہ اے، ایہہ خُدا دا پسندیدہ
بندہ اے۔

یاد رکھو پئی اسی ایہناں گل دے اُتے ایس آیت دے تعلق دے نال دھیان کردے پئے آں پئی
خُدا نے دیندار نوں اپنے لئی وکھ کیتا ہويا اے۔ خُدا اوہناں لوکاں نوں لبھدا اے تے چنگا جاندا
اے جنہاں دا اوہدے نال اک خاص تعلق پایا جاندا اے۔ او لوکی دوجیاں دے لئی مددگار تے
بابرکت ثابت ہندے نے۔ اسی ایہنوں کُجھ کُجھ بھلیائی دیاں معنیاں دے وچ وی لیندے
آں۔ ایہدے توں مُراد خُدا دی طرح دا دل رکھنا اے، ہر او کم جیہڑا میں کُردا آں اوہدے وچ
میںوں ایس گل دا احساس ہندا اے پئی خُدا میںوں دوجیاں دی مدد دے لئی ورتدا پیا اے۔
جمدے وچ میں آپ، میرا خاندان تے او سارے لوکی شامل نے جیہڑے میرے آسے پاسے
رہندے نے۔ جے میں اوہناں دے بارے دے وچ بوجھ رکھدا آں تے اوہناں دی ذہنی طور

تے صلاح کرنا چاہندا آں تے میں اوہناں نوں خُدا دے ہور بہتا نیرے لیاون دا سبب بن سکدا اے۔ ایویں اک دیندار بندہ اک چنکا دل رکھن والا انسان وی ہو سکدا اے۔

اے تیکر اسی ایس زبور دے وچوں اک زبور نویس دیاں دُعاواں دے تعلق دے نال گل بات کیتی اے۔ تے فیر ایہہ پئی او اقرار کردا اے پئی خُدا ای اے نے مینوں تنگی دے وچ کُشادگی دتی اے۔ تے ہُن وی او خُدا نوں ای آکھدا اے پئی تُو میرے اُتے رحم کرتے میری دُعا نوں سُن لے۔ تے فیر ایہدے باہجوں او اپنی ساری قوم دیاں وڈیریاں دے نال مُخاطب ہندا اے تے اوہناں آکھدا اے پئی تُو تیکر ایویں ای کردے رہوؤ گے؟ تُو تیکر میرے خلاف لڑن دے لئی تیار رہو گے؟ تے فیر اگے وھدیاں ہوئیاں اسی ویکھدے آں پئی او آکھدا اے پئی تُو تیکر اے جے تُو ایویں ای کردے رہو گے تے یاد رکھو پئی مینوں وی خُدا نے اپنے لئی وکھ کیتا اے۔ جے تُو ایہہ سارا کُجھ میرے نال کردے او تے تُو ایہہ میرے نال نہیں سگوں خُدا دے مسح کیتے ہوئے دے نال کردے پئے او جنوں اوہنے اپنے لئی وکھ کیتا اے تے اپنی قوم دا بادشاہ بنایا اے۔ تُو مینوں ایویں دے صورت حال دے وچ پادیتا اے پئی میں اپنی قوم دے لئی اپنیاں ذمہ داریاں نوں پورا نہیں کر پارہیا آں۔ ایس لئی ایس گل نوں یاد رکھو تے جان لیوؤ پئی خُدا نے دیندار نوں اپنے لئی وکھ کیتا ہویا اے۔ جدوں میں خُدا نوں سداں گاتے او سُن لیوئے گا۔

اگے وھدے آں تے ویکھدے آں پئی اگلی آیت دے وچ ایویں لکھیا ہویا اے:

تھر تھراؤ تے پاپ نہ کرو

اپنے اپنے بسترے اُتے دل وچ سوچو تے چُپ رہوؤ

ایس دوجے حصے دے باہجوں ایتھے سلاہ لکھیا ہويا اے جیہڑا پئی موسیقی دی اک اصطلاح اے۔

ایس آیت دے وچ وی اسی ویکھدے آں پئی خُدا دا بندہ داؤد ایتھے وی اوہناں لوکاں دے نال

مُحاطب ہندا اے جنناں دے بارے دے وچ ای ایہناں پہلیاں آیتاں دے وچ دھیان کیتا

اے۔ او اوہناں نوں آکھدا اے پئی تھر تھراؤ تے پاپ نہ کرو۔ ایتھے پاپ دے لئی او لفظ ای

ورتیا گیا اے جیہڑا اسی نویں عہد نامے دے وچ پاپ دے لئی ویکھدے آں۔ ایہدے توں مراد

ہر طرح دا پاپ اے جیہڑا خُدا دی نگاہ دے وچ پیہڑا اے۔ ایہدے وچ او ساریاں گلاں شامل

ہندیاں نے جنناں نوں اسی کردے، ویکھدے یاں سُنندے آں۔ خُدا دے پاک کلام دے وچ بار

بار پاپ دے تعلق دے نال گل کیتی گئی اے تے دسیا گیا اے پئی سانوں کیہ کرنا چاہیدا اے

تے کیہ نہیں کرنا چاہیدا اے۔ کیہڑیاں گلاں نے جنناں نوں خُدا پسند کردا اے تے کیہڑیاں

نے جنناں نوں او پسند نہیں کردا اے۔ خُدا دے پاک کلام دے وچ لکھیا ہويا اے پئی جو کجھ

وی کرو جی دے نال کرو تے ایہہ جاندیاں ہوئیاں کرو پئی خُدا دے لئی کردے او۔ تے بے

اسی ایہہ سارا کجھ جاندیاں ہوئیاں وی نافرمانی کریئے تے اسی پاپ کردے آں۔ تے ایس آیت

وچ لکھیا اے پئی تھر تھراؤ تے پاپ نہ کرو۔ خُدا دا خوف اپنیاں دلاں دے وچ رکھو تے

اوہدے خلاف کجھ وی آکھن توں ڈرو۔ کجھ وی بولن توں پہلاں ایہہ سوچ لوؤ پئی تسی جو کجھ وی

آکھن لگے او اوہدے وچ کوئی اجھی گل تے نہیں اے جیہڑی خُدا نوں چنگی نہیں لگدی اے۔
 ایس لئی ایبتھوں تیکر دھیان رکھو پئی بولن توں پہلاں وی سوچ لوؤ۔ تے کجھ خاص گلاں دے
 بارے دے وچ جدوں تیکر تسی خُدا توں کجھ جان نہیں لیندے او اوہدوں تیکر چُپ رہوؤ۔
 ایویں تسی جو کجھ وی کرو گے اوہدے وچ کامیاب ہوؤ گے تے خُدا تہاڈی مدد کرے گا۔
 اپنیاں اپنیاں بستریاں اُتے دلاں دے وچ سوچوں تے چُپ رہو۔
 جدوں تسی سوچ دے لئی بستر اُتے لیٹدے او تے کئی واری ایویں ہندا اے پئی تہاڈیاں
 سوچاں دے وچ او ساریاں گلاں آونا شروع ہو جاندیاں نے جیہڑیاں سارے دن دے وچ تہاڈے
 نال پیش آئیاں ہوئیاں ہون۔ اوہناں دے وچوں کجھ ایویں دیاں وی ہندیاں نے جیہڑیاں خُدا
 نوں چنگیاں لگدیاں نے تے کجھ نے جیہڑیاں چنگیاں نہیں لگدیاں نے۔ کئی واری سانوں پتہ
 ہندا اے پئی ایویں کرنا ٹھیک نہیں اے پر فیرو وی اسی ایویں کردے رہندے آں۔ ایویں دے
 خیال سانوں بار بار آوندے رہندے نے پئی بے ایویں کرنا ٹھیک نہیں سی تے فیر میں ایویں
 کیوں کردا پیا آں۔ ایہدے بارے دے وچ ای ایبتھے آکھیا گیا اے پئی اپنے بستر اُتے سوچو تے
 دھیان کرو۔ جدوں اسی خاموشی دے نال کسے گل دے اُتے دھیان کردے آں تے اسی اوہے
 بارے دے وچ چنگی طرح دے نال جانندے آں۔ بنی اسرائیل دے چالی وریاں دے لمبے سفر
 دے وچ اسی ویکھدے آں پئی کئی واری اوہناں نے ایویں دیاں کماں نوں کیتا سی جہناں دے
 بارے دے وچ او جانندے سن پئی ایویں کرنا خُدا نوں پسند نہیں اے۔ اوہناں نے بطالت توں

کم لیا، غیر معبوداں دی پیروی کیتی، خُدا نون ناراض کیتا، اوہدیاں حکماں نون اک پاسے رکھ
 دتا، اوہ خُدا اُتے بڑبڑاون لگے تے اوہناں نے اوہدی قُدرت دیاں کماں نون اپنیاں خطاواں دی
 وجہ دے نال ناچیز جانیا سی۔ بھادیں جے خُدا نے اوہناں نون ہر طرح دے نال راہنمائی فراہم
 کیتی سی پئی اوہناں نون کیہ کیہ تے کیویں کرنا اے۔ تے سب توں وہد کے اوہنے اوہناں نون
 ایہہ ساریاں گلاں ایویں پیش کیتیاں سن پئی او ایہناں نون باآسانی سمجھ سکدے سن۔ ایس لئی
 زبور نویس ایویں بیان کردا اے پئی تھر تھراؤ تے پاپ نہ کرو۔ اپنے اپنے بستر اُتے دل دے
 وچ سوچو تے چُپ رہوؤ۔

ایہہ ایس چوتھے زبور دی چوتھی آیت سی تے او اسی ہُن اگے وہدے آں تے ویکھدے آں پئی
 پنجویں آیت دے وچ ایویں لکھیا ہویا اے:

صداقت دیاں قُربانیاں گُزرانو
 تے خُداوند دے اُتے توکل کرو۔

پُرانے عہد نامے دے وچ قُربانیاں تے نذراں دے لئی لفظ ذبیحہ ورتیا گیا اے۔ اوہنا دے لئی
 پچ وکھری طرح دے الفاظ ورتے گئے نے۔ جیویں پئی جیمہڑی قُربانی اتھے بیان کیتی گئی اے
 اوہدے وچ تے سوختنی قُربانی دے لئی ورتے گئے لفظ دے وچ فرق پایا جاندا اے۔ خُدا دے
 حضور دے وچ ستائش دی قُربانی، اوہدے حضور دے وچ تقدس تے ایویں دے کجھ لفظاں نون
 بیان کیتا گیا اے۔

پُرانے عہد نامے دے وچ نر جانور نوں قُربانی دے لئی پیش کیتا جاندا سی۔ ہوسکدا اے پئی
 ایس لئی پئی مادہ نوں دُدوہ پلاون دے لئی یاں بچے حاصل کرن دے لئی ورتیا جاندا سی۔ پر
 ایہہ تے سمجھن والی گل ایہہ ہے پئی مادہ توں جو کجھ حاصل ہندا اے اوہدا تعلق ساڈے
 اَچ دے نال ہندا اے۔ پر جیہڑے کم دے لئی نر نوں ورتیا جاندا اے اوہدا تعلق ساڈے آون
 والے کل دے نال ہندا اے۔ تے ایہہ سوختنی قُربانی ایس لئی گذرانی جاندی سی تاں پئی تسی
 او س آون والی سز توں بچ سکو جہدا سامنا تھانوں اپنی ابدیت دے وچ کرنا پینا اے۔ تھادی
 پیش کیتی ہوئی ایس قُربانی توں تھانوں پاپاں دی مُعافی حاصل ہندی اے تے ایویں تسی خُدا
 دی بادشاہی دے وچ داخل ہون دے قابل ہو جاندا اے۔ ایویں ایہدا دارومدار تھادی اندر
 پائے جاون والے ایمان دے اُتے وی ہے۔ جدوں اسی ایس عبرانی لفظ ذبیحہ دے بارے گل
 کردے آں تے ایہہ اک طرح دی شفاعتی قُربانی اے جنہوں خُدا دے حضور دے وچ پیش کیتا
 جاندا سی۔ ایویں ایس قُربانی نوں پیش کردیاں ہوئیاں ایویں وی خیال کیتا جاندا سی پئی اسی
 سارے رل کے خُدا دی حضوری دے وچ شادمانی دی جیاتی بسر کراں گے۔ خُدا نے ایہدے
 بارے دے وچ بہت ای بہترین طور تے راہنمائی کیتی سی۔ ایہہ ایویں ہے جیویں پئی کسے تھی
 ہوئی شے دی مرمت کیتی جاندی اے۔ اسی جاندے آں پئی اسی لوکاں دے نال اپنے تعلق
 بناون دے وچ مصروف رہندے آں تے اسی چاہندے آں پئی اسی اوہناں تیکر فیر رسائی
 حاصل کر لیتے جنہاں دے نال ساڈے تعلقات دے وچ کجھ وگاڑ پیدا ہو گیا اے۔ ایویں قُربانی

خُدا دے نال تہاڈے تعلقات تے اوہدے اُتے پائے جاون والے تہاڈے بھروسے نوں ظاہر کردی اے۔ راستبازی دے لفظ دے اُتے دھیان کردیاں ہوئیاں اسی ایہنوں صدق دے نال وی تشبیہ دتا سی۔ حمدے بارے دے وچ اسی ایس زبور دی پہلی آیت دے اُتے وی دیکھیا سی۔ راستبازی دے نال کیتی جاون والی قربانی اہمیت دی حامل اے جیہڑی پئی تہاڈے دل دے وچ پائی جاون والی صداقت نوں ظاہر کردی اے جنہوں خُدا پسند کردا اے۔ تے توکل کرنا یا اعتماد کرنا اصل وچ اوہناں معنیاں دے وچ آوندا اے جدوں اسی اپنے آپ نوں مکمل طور تے خُدا دے سپرد کر دیندے آں تے ایہہ خیال کردے آں پئی او جو کجھ وی کرے گا او بھلا ہوئے گا۔

ایہہ او ساریاں گان نے جنہاں نوں اسی کاملیت دے نال خُداوند یسوع مسیح دی شخصیت دے وچ دیکھ سکدے آں۔ اوہدی قربانی دے وچ راستبازی پائی جاندی سی جیہڑی اوہدے اندر ساڈے لئی پائے جاون والے پیار نوں ظاہر کردی اے۔ اوہنے پیئو دے نال وفاداری دی اک کامل مثال قائم کیتی سی۔ اوہنے ساڈے خاطر فدیہ دیندیاں ہوئیاں سانوں پیئو دی پچھان بخشی سی تے ساڈی گنتی دے کم نوں اپنی جان دیندیاں ہوئیاں مکمل کیتا سی۔ اوہدی قربانی کام قربانی سی جنہنے سانوں رہائی دوائی سی۔ تے ہُن اسی ایس زبور دی پنجویں آیت دے اُتے دھیان کردے آں جتھے ایویں لکھیا ہویا اے:

صداقت دیاں قربانیاں گُزرانو

تے خُداوند دے اُتے توکل کرو۔

تے اگے وہدے آل تے ویکھدے آل پئی ۶ ویں آیت دے وچ ایویں لکھیا ہويا اے:

بہت سارے آکھدے نے پئی کون سانوں کجھ بھلیائی وکھائے گا؟

اے خُداوند تُو اپنے چہرے دا ساڈے اُتے جلوہ گر فرما۔

ایہہ اوہناں لوکاں دے بارے گل ہندی پئی اے جیہڑے داؤد دے نال دے لوک نے۔

جیہڑے اوہدی ایس پریشانی دے وچ برابر دے شریک نے، او کجھ ہمت ہاردے ہوئے وکھالی

دیندے نے۔ او بھاویں جے ایس گل دے اُتے ایمان رکھدے نے پئی داؤد خُدا دا بندہ اے

تے خُدا اوہدی مدد کرن تے قادر اے۔ پر ہُن دو تِن دیہاڑے لہنگ گئے نے تے کوئی وی اجیہا

واقعہ نہیں ہويا اے پئی اوہناں دے حوصلے اُچے ہون۔ او خیال کردے نے پئی ہوسکدا اے

پئی اے وی خُدا کجھ ایویں دا کرے گا پئی اوہناں دے ویری تباہ ہو جاوون گے۔ ہوسکدا اے

پئی ہُن وی اگ ورے تے اوہناں دیاں ویریاں نوں ساڑ دیوئے تے او سارے معجزانہ طریقے

دے نال بحالی حاصل کرن۔ ایس لئی او آکھدے نے پئی کون اے جیہڑا ایس ویلے اوہناں دا

حوصلہ و ہداون دے لئی کجھ کرے گا۔ ایویں او بھلیائی دا کوئی نشان ویکھنا چاہندے نے۔ داؤد

ایس زبور دے وچ خُدا توں دُعا منگدا اے جیویں پئی پہلی آیت دے وچ او آکھدا اے پئی

جدوں میں سداں تے مینوں جواب دے اے میری صداقت دے خُدا۔

تنگی دے وچ تُو مینوں کُشادگی بخشی۔ میرے اُتے رحم کرتے میری دُعا نوں سُن۔

تے فیر او خُدا نون آکھدا اے پئی اپنا چہرہ میرے اُتے جلوہ گر فرما۔
 ایہہ اک دُعا سی جمدے بارے دے وچ سانوں گنتی دی کتاب دے وچ ویکھن نون ملدا اے۔
 جتھے خُدا آپ ایس گل دا حکم دیندا اے پئی تسی بنی اسرائیل نون ایویں دُعا دیا کرنا۔ او اسی
 ویکھدے آل پئی گنتی دی کتاب دے ۶ باب دی ۲۴ توں ۲۶ آیت دے وچ ایویں لکھیا ہویا
 اے:

خُداوند تینوں برکت دیوئے تے تینوں محفوظ رکھے

خُداوند اپنا چہرہ تیرے اُتے جلوہ گر فرماوئے تے تیرے اُتے مہربانی رہوئے۔

خُداوند اپنا چہرہ تیرے ول نون متوجہ کرے تے تینوں سلامتی بخشے۔

پر ایہہ اسی ویکھدے آل پئی بادشاہی دا مسئلہ اے۔ کیوں جے بادشاہت داؤد دے اپنے ای پتر
 ابی سلوم دے ہتھ وچ جا چکی اے۔

ایس ای حوالے دے نال اسی آستر دے بارے وچ ویکھدے آل۔ اسی جاندے آل پئی اوہدا
 بادشاہ دے محل دے وچ جانا بہت ای ضروری ہو گیا سی کیوں جے اوہدی ساری قوم دی جیاتی
 خطرے وچ سی۔ پر اوس ویلے دے شاہی قانون دے مطابق ملکہ اوس ویلے تیکر بادشاہ دے
 کول نہیں جاسکدی سی جدوں تیکر اوہنوں آپ یاد نہیں کردا سی۔ پر تاں وی اوہدا ایویں کرنا
 بہت ای ضروری ہو گیا سی۔ او جاندی سی پئی ایہدے وچ جان دا خطرہ پایا جاندا اے۔ جے کوئی
 بادشاہ دے حضور دے وچ بن بلائے چلا جاندا سی تے اوہدی جان بخشی بادشاہ دے چہرے دے

تاثرات اُتے مُنْخَصِر ہندی اے۔ جے بادشاہ دے چہرے دے اُتے غُصہ ہندا سی تے ایہدے
توں مُراد ایہہ ہے پئی اوہدے لئی کُجھ چنگا نہیں ہون والا اے۔ پر جہدے ول نون خُدا اپنا
عصا وہدا دیندا سی او اوہدی جان بخش دیندا سی۔

ایویں ای او لوکی وی ایس گل نون اڈیکدے پئے نے پئی خُدا اوہناں دے اُتے اپنے چہرے
دے نُور نون ظاہر کرے۔ کیوں جے او جاندے سن پئی خُداون دے چہرے دے نُور دے وچ
اوہناں دے لئی جیاتی پائی جاندى اے۔ داؤد اپنیاں لوکاں دے لئی اے وی بھلیائی چاہندا اے
تے او نہیں چاہندا اے پئی اوہناں دے نال کُجھ پیہڑا ہوئے۔

اگے وہدے آں تے ویکھدے آں پئی زبور ۴ دی ے آیت دے وچ ایویں لکھیا ہویا اے:

تُو میرے دل نون اوہدے توں بہتی خُوشی بخشی اے

جیہڑی اوہناں نون غلے تے مے دی فراوانی توں ہندی اے

ہر کوئی ایہناں نعمتاں توں بہت ای خُوشی محسوس کردا اے۔ ہر کسے دی ایہہ خواہش ہندی

اے پئی اوہناں دے کول بہت زیادہ دولت ہوئے تے اوہناں دے کول فراوانی دے نال

کھاؤن پین نون ہوئے۔ جے تے ہاڈے کول اک سال دے وچ چنگی فصل ہندی اے تے تسی

دو جے سال دے لئی کُجھ بے فکر ہو جاندے او۔ اوہناں ویلیاں دے وچ اوہناں لوکاں نون بے

شُمار مسئلیاں دا سامنا کرنا پیندا سی کیوں جے اوہناں نون چنگی جیاتی بسر کرن دے لئی بہت

ای جدو جہد کرنا پیندا سی۔ اوہناں دے لئی چنگے فصل بہت زیادہ خُوشی دا سبب ہندی سی۔

جدوں او اپنی فصل نوں و ہڈنا شروع کردے سن تے او خوش مناندے سن۔ خُدا اوہناں نوں ہمیشہ خوش ویکھنا چاہندا سی تے او آپ اوہناں دے نال خوشی منانا چاہندا سی۔ اسی جان دے آل پئی خُدا دیاں بہت ساریاں صفتاں دے وچوں اک ایہہ وی اے پئی اسی او ساڈے نال رل کے خوشی منانا چاہندا اے۔ تے او چاہندا اے پئی اسی اوہدے لئی خوشی تے شادمانی دا سبب بنیے۔ تے اوہدے بارے دے وچ لکھیا ہویا اے پئی او گاوندیاں ہوئیاں تہاڈے لئی خوشی منواندا اے۔

خُدا دا بندہ داؤد ایس ای شادمانی دے لئی خُدا توں دُعا منگدا اے۔ تے او اوہنوں آکھدا اے پئی اے خُداوند تُو اپنا چہرا ساڈے اُتے جلوہ گر فرما۔ او خُدا دا مُسکراوندا ہویا چہرا ویکھن دا آرزو مند سی کیوں جے اوہدے وچ ای اوہناں دی حیاتی پائی جان دی سی۔ ایویں جدوں اوہ ایہہ آکھدا اے پئی تُو میرے دل نوں خوشی بخششی اے تے ایہہ ایس گل دا ثبوت اے پئی خُدا نے اوہدی دُعا نوں سُن لیا اے تے اوہدے من دے وچ اک اطمینان دے دتا اے جہدا او اظہار کردا اے۔

اُو اگے و ہدے آل تے اگلی آیت اُتے دھیان کردے آل جتھے ایویں لکھیا ہویا اے:

میں سلامتی دے نال لیٹ جاواں گا تے سُنتا رہواں گا

کیوں جے اے خُداوند صرف تُو ای مینوں محفوظ رکھدا ایں۔

ایویں اوہنوں ایس گل دا یقین ہو جاندا اے پئی سارا کجھ ایویں ای ٹھیک ہو جاوے گا جیویں پئی
 ایہہ پہلاں سی۔ او ایس گل نوں جان لیندا اے پئی اویں ای میں خُدا دے حضور دے وچ
 خوشی مناواں گاتے اوہدی رحمت دے گیت گایا کراں گا۔ اوہدی مہربانی دے وچ میں بے فکر
 ہو جاواں گا کیوں جے میرا بھروسہ اوس خُدا دے اُتے ہے جیہڑا مینوں چھڈاؤن تے قادر
 اے۔ ایس لئی او آکھدا اے پئی میں سلامتی دے نال لیٹ جاواں گاتے میں سو جاواں گا۔
 ایس آیت دیاں دونواں حصیاں دے وچ اک تحفظ پایا جاندا اے۔ کیوں جے او پہلاں سلامتی دی
 گل کردا اے تے فیر او اطمینان دے بارے آکھدا پیا اے۔ او ایس گل دا اقرار کردا اے پئی
 صرف او ای اک اجھی ہستی اے جیہڑی ایہہ سارا کجھ کرن دی قدرت رکھدی اے۔ او ای
 اوہنوں ایس وہڈی مُصیبت وچوں کڈھے گاتے اوہنوں سرفرازی تے سلامتی عطا کرے گا۔ او
 جاندا اے پئی اوہنوں ایویں کرن دے لئی کسے وہڈے فوجی لشکر دی لوڑ نہیں اے۔ او میرے
 وچ اے تے میں اوہدیاں کھنباں دے ہیٹھاں پناہ لیندا آں۔ او میرے دل نوں اپنے اطمینان
 دے نال بھر دیوے گا تے مینوں اپنی پناہ دے وچ محفوظ رکھے گا۔
 ایویں ایہہ ایس زبور دے وچ کیتی جاوے والی داؤد دُعا دا اخیر حصہ اے جدوں او ایہہ آکھدا
 اے پئی:

میں سلامتی دے نال لیٹ جاواں گاتے ستر ہواں گا
 کیوں جے اے خُداوند فقط تُو ای مینوں مُطمئن رکھدا ایں۔

او ایہدے نال ای اسی اپنی ایس ساری گل بات دے اخیر دے ول نوں وہدے آں تے کجھ
مُشاہدیاں دی لو دے وچ ایہنوں مُکاوندے آں۔

اسی ایس سارے حوالے دے وچ ویکھیا اے پئی داؤد اپنیاں ویریاں دی وجہ توں اک وہڈی
مُصیبت دے وچ پھسیا ہویا اے۔ او خُدا توں اپنے لئی مدد منگدا اے پر او خُدا نوں ایہہ نہیں
آکھدا اے پئی تُو ایہناں لوکاں دی عدالت کر۔ کجھ زبوراں دے وچ اسی ویکھدے آں پئی او
ایویں کردا وی اے پر اسی اوہناں دے بارے دے وچ بعد وچ گل کراں گے۔ اسی ویکھدے
آں پئی او خُدا نوں ایہہ نہیں آکھدا اے پئی میریاں ویریاں نوں سزا دے۔ سگوں او خُدا توں
اپنے ستاون والیاں دے لئی وی برکت دی دُعا منگدا اے۔ کیوں جے او اوہناں دا بادشاہ سی
تے خُدا نے اوہنوں اپنی قوم دا بادشاہ ہون دے لئی چُنیا سی۔ ایویں اوہناں دا بادشاہ ہون دے
ناطے خُدا دے حکم دے مطابق اوہدا ایہہ فرض سی پئی او اپنیاں لوکاں دے لئی برکت دا سبب
بنے۔ اتھے سانوں قوم دیاں بزرگاں دا ذکر وی ملدا اے پر او وی ایس بغاوت دے وچ اپنی
سلوم دے نال شامل سن۔ پر او اوہناں نوں پھڑنایا مارنا نہیں چاہندا اے سگوں او اوہناں دے
من دی تبدیلی دے لئی خُدا توں منگدا اے۔ او خُداوند دے وچ اپنیاں لوکاں دے نال رل
کے خُوشی مناوند دی خواہش رکھدا اے۔ ایس لئی او اوس خُوشی دا اظہار کردا اے جیہڑی خُدا
ولوں اوہدے دل وچ پائی جاندی اے۔

بھاریں جے اوہدے نال دیاں کجھ لوکاں دے بارے ایہہ وی پایا جاندا اے پئی او حوصلہ ہار گئے
سن۔ تے او ایہہ سوچدے سن پئی کون سانوں بچاؤے گا پر خُدا نے اوہناں نوں خوشی تے
اٹمینان دتا سی۔ ایس زبور دے اخیر دے وچ اسی ایس ای گل دا اقرار داوؤد دے مُنہ توں
سُندے آں پئی خُدا نے اوہنوں اوہناں توں بہتی خوشی دتی اے جیہڑی اوہنوں نوں اپنے عے
تے مے توں ہندی اے۔ خُدا نے اوہناں نوں سلامتی دا احساس بخشیا سی تے اوہناں نوں اپنا
الہی اٹمینان دتا سی۔ پرانے تے نویں عہد نامے دے وچ ایتھوں تیکر پئی اج وی اسی ایس گل
نوں ویکھ سکدے آں پئی ساڈیاں جیتیاں مُشکلاں دے نال بھریاں ہوئیاں نے۔ تے کدی
کدی سانوں باہر نکلنا بہت ای اوکھا دکھالی دیندا اے۔ پر ہمیشہ ایہہ یاد رکھو پئی ساڈا خُدا کوئی
لکھا ہویا خُدا نہیں اے۔ او مہربان اے تے او ساڈیاں مسئلیاں دے وچ سانوں کلیاں نیں
چھڈدا اے۔ او ساڈا چنگا ایلی اے جیہڑا سانوں بھٹکن نہیں دیندا اے۔ او ویریاں دے مقابلے
وچ سانوں کدی وی ایہہ احساس نہیں ہون دیندا اے پئی اسی اوہدی نگاہ دے وچ نہیں آں
سگوں او اپنیاں لوکاں دے فکر کردا اے تے اوہناں نوں سنبھالدا اے۔ اوہنے اپنے پتر دی
رائیں اپنے پیار نوں اوہناں دے اُتے ظاہر کیتا اے۔ اوہنے اپنے پتر دی رائیں سانوں فضل
تے آزادی دتی اے۔ اوہنے ساڈیاں ساریاں پایاں نوں ساڈے اُتوں دھو دتا اے۔

ایس چوتھے زبور دے وچ اسی ویکھدے آں پئی داؤد خُدا دے اُتے اپنا بھروسہ رکھدا اے تے
 او اوہدے وچ تسلی تے اطمینان پاوندا اے تے اوہدے وچ اپنے تحفظ دا اقرار کردا اے۔ او
 آکھدا اے پئی جے خُدا اپنا چہرہ جلوہ گر فرماوندا اے تے اسی جیوندے رہواں گے۔
 او اسی خُدا دے حضور وچ جھگیے تے ایس سارے کلام دے لئی اوہدا شکر ادا کریئے۔ تے
 اوہدے توں منت کریئے پئی ایہہ ساڈے لئی تے دوجیاں دے لئی برکت دا سبب بنے۔
 خُداوند ساڈے اَسْمانی پئیو اسی تیرے چہرے دے لئی جیہڑا تُو ساڈے اُتے جلوہ گر فرماوندا ایں
 تیرا شکر کردے آں۔ اسی تیری سوہنی مُسکراہٹ دے لئی تے تیری ابدی رحمت دے لئی دل
 توں شکر کردے آں۔ خُداوند اسی منت کردے آں پئی سانوں ایویں دا دل عطا کر پئی اسی
 تینوں بہتر طور تے سمجھ سکئیے۔ اسی تیری پہچان نوں دوجیاں تیکر پہچاون دا وسیلہ بن سکئیے
 تاں پئی اوہناں نوں تیرے کول لیاون دے نال اوہناں دا حوصلہ وہد سکے۔ تیرے بندے داؤد
 دے رائیں ایس کلام دے لئی تیرا شکر کردے آں۔ اسی ایہناں ساریاں لوکاں دے لئی برکت
 منگدے آں جیہڑے ساڈے نال نے تے منگدے آں پئی تُو ایہناں نوں اپنی کامل خوشی عطا
 کر۔ اسی اپنیاں ساریاں مسئلیاں دے لئی تیرے توں منت کردے آں پئی تُو ساڈی مدد کر۔
 اسی اپنیاں ساریاں مُشکلاں، پریشانیاں، مسئلے، گھبراہٹ، بے چینی تیرے حضور پیش کردے
 آں۔ خُداوند تُو سانوں اپنا الہی اطمینان تے سلامتی عطا کر۔ کیوں جے اسی ایس گل دے اُتے
 ایہمان رکھدے آں پئی تُو کدی وی اپنیاں لوکاں نوں کلیاں نہیں چھڈدا ایں۔ خُداوند تیرا ناں

مُبارک ہوئے تُو ساڈی دُعا نوں سُن لے۔ اسی ایہہ سارا کُجھ تیرے سوہنے پتر اپنے خُداوند
یسوع مسیح دا ناہ لیندیاں ہوئیاں منگدے آں۔ آمین

خُداوند کا شکر ہے کہ ہم آج پھر جمع ہیں تاکہ ہم مل کر کچھ مزید بات چیت کر سکیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اس وقت مزامیر پر بات کر رہے ہیں اور ابھی تک ہم نے اپنے اس حصے کے تین مزامیر کے بارے میں تفصیل کے ساتھ دیکھا ہے اور ابھی اس وقت ہم چوتھے زبور کے بارے میں اپنی بات چیت کا آغاز کرنے کو ہیں۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم اس زبور کے بارے میں اپنی بات چیت کا باقاعدہ طور پر آغاز کرنے سے پہلے خُدا سے تقویت مانگتے ہیں۔ آئیے ہم دُعا کریں:

خُداوند خُدا مسیح یسوع میں ہمارے آسمانی باپ ہم دل کی گہرائی سے تیرے شکر گزار ہیں تیرے اس پیار کے لئے جو تو ہم سے کرتا ہے۔ تیرے بٹے کے وسیلے تیرے پیار کے لئے ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں جس میں ہم نے ابدی زندگی اور حاصل کی ہے۔ تیرا شکر ادا کرتے ہیں اُس کے بہائے گئے خُون کے لئے جس کے وسیلے سے ہمیں اُس ملنے والی سزا سے چھٹکارا حاصل ہوا ہے اور یوں ہمیں اُن گناہوں کی وجہ سے اپنی ابدیت ہلاکت میں نہیں گزارنی پڑے گی۔ تیرے بٹے کے لئے شکر یہ جس میں ہم تیرے ساتھ ایک مضبوط، محفوظ اور پائیدار تعلق رکھتے ہیں۔ اُس بھروسے کے لئے جو ہم تیرے بٹے کے وسیلے تجھ پر رکھتے ہیں ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہم درحقیقت اس قابل نہیں ہیں کہ ہم اس سب کچھ کے لئے تیرا شکر ادا کر سکیں۔ اس بات کے لئے شکر یہ کہ ہم تیرے ساتھ ساتھ رہتے ہوئے راستبازی کی زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ تیرے پیارے بٹے کی شبیہ کے لئے شکر گزار ہیں جسے تُو نے

ہمارے اوپر ظاہر کیا اور یوں انسانی تاریخ کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے۔ ہم منت کرتے ہیں کہ ہم اُس میں اور زیادہ آگے بڑھ سکیں اور اُس میں سے اُٹھے پہچان سکیں اور اِس پہچان کو دوسروں تک بھی پہنچا سکیں۔ ہم منت کرتے ہیں کہ اس وقت میں کئے جانے والے کلام پر تیری خاص برکت ہو۔ ہم یہ سب کچھ تیرے پیارے بٹے ہمارے خُداوند یسوع مسیح کا نام لیتے ہوئے مانگتے ہیں آمین۔

تو ہم جیسا کہ جانتے ہیں اور میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اِس وقت چوتھے زبور پر بات کرنے والے ہیں۔ اِس سے پہلے ہم نے پہلے تین مزامیر پر بات کی تھی۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ سب سے پہلے ہم نے پہلے زبور میں سے دیکھا تھا کہ اُس میں ایک مُبارک شخص کے تعلق سے بات چیت کی گئی ہے کہ وہ کیسا ہے اور خُدا کا بندہ داؤد خُدا کی راہنمائی میں اُس کے بارے میں کن کن باتوں کا بیان کرتا ہے۔ اُس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ وہ ایک ایسے درخت کی مانند ہے جو کہ پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہو۔ مطلب یہ کہ وہ ایک بھرپور زندگی بسر کرتا ہے۔ تو یوں ایک مُبارک شخص کو ایک ایسے درخت کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جو کہ پانی کے ندیوں کے پاس لگایا گیا ہو۔ وہ خُدا کے کلام میں بڑھتا اور ترقی کرتا جاتا ہے۔ اِس سے مُراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ اُسے اپنی زندگی میں کسی بھی مُشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا بلکہ اِس مُراد یہ ہے کہ اُسے اپنی ساری زندگی میں جس بھی مُشکل کا سامنا ہوگا اُس کا خُدا اُس کے ساتھ ہوگا اور وہ اُسے کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ یوں وہ ہر طرح کے حالات

میں ایک سرسبز درخت کی مانند ہرا بھرا رہے گا۔ تو یوں پہلے زبور میں سے ہم نے دیکھا تھا کہ جب ہمارا تعلق ہمارے خُدا کے ساتھ گہرا ہوتا ہے یعنی ہماری جریں خُداوند میں مضبوطی سے قائم ہوتی ہیں تو ہمیں ہماری ساری زندگی بھر اُس سے تقویت اور زندگی کی بھرپوری ملتی رہتی ہے۔

اور اِس کے بعد میں ہم نے دوسرے زبور کے بارے میں بات کی تھی اور وہاں پر ہم نے دیکھا تھا کہ قومیں، زمین کے بادشاہ اور حاکم اکٹھے ہوئے ہیں تاکہ وہ خُداوند اور اُس کے مسیح کے خلاف صلاح اور مشورہ کریں۔ یہ مسیح خُدا کا بیٹا ہے جس کے بارے میں وہ یہاں پر بیان کرتا ہے کہ اُس نے اُس کے بارے میں خُود بیان کیا ہے کہ تُو میرا بیٹا ہے آج تُو مجھ سے پیدا ہوا۔ یوں اِس زبور میں مسیح خُداوند کے اِس زمین پر آنے کے بارے میں ہمیں کچھ تفصیلات کا علم ملتا ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اِس زبور کرکچھ حصوں میں بانٹ کر اِس کا مطالعہ کیا تھا۔ ہم نے دیکھا تھا کہ کیوں قومیں طیش میں ہیں اور خُدا اُن سب پر ہنستا ہے۔ اور وہ اُنہیں بیان کرتا ہے کہ میں تو اپنے بادشاہ کو یعنی اپنے مسیح کئے ہوئے کو اپنے کوہ مقدس صیون پر بٹھا چکا ہوں۔ اور پھر یہ بھی کہ دوسرا زبور اِس بات میں ہماری حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ ہمیں خُدا پر اپنا توکل کامل رکھنا چلیئے اور جیسا کہ اِس زبور کے اختتام میں بھی لکھا ہوا ہے کہ ڈرتے ہوئے خُداوند کی عبادت کرو اور کانپتے ہوئے خوشی مناؤ۔ اور پھر وعدہ کئے ہوئے فرزند یعنی مسیحا کی آمد کے بارے میں ذکر پایا جاتا ہے کہ جب وہ اِس زمین

پر آئے گا اور اُس کی بادشاہی کے بارے میں یہاں پر بیان کیا گیا ہے جہاں پر صرف ایک امن ہوگا لیکن بہت سے لوگ آج بھی اُس کی بادشاہی کو سمجھنے کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہیں۔ اور پھر آگے بڑھتے ہوئے ہم نے تیسرے زبور پر حال ہی میں غور کیا تھا۔ ہم نے دیکھا تھا کہ زبور تین میں ابی سلوم کی وجہ سے داؤد پر آنے والی مُصیبت کے بارے میں ذکر پایا جاتا ہے۔ کیونکہ اُس نے داؤد کے تخت پر قبضہ کرتے ہوئے داؤد کو مار ڈالنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اور ہم نے غور کیا تھا کہ اُس پر آنے والے تمام مصائب میں سے اُس کے سیکھنے کے لئے ایک سبق پایا جاتا تھا۔ اُس کی زندگی کے مختلف حالات پر ہم نے بات کی تھی کہ اُس کی خاندان کے افراد، اُس کے دوست، اُس کے سردار اُس کے ساتھ کس طرح سے پیش آتے ہیں۔ اور کس طرح سے اُس کی زندگی میں ہونے والا ایک بہت بڑا گناہ اُس کے لئے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے اور خُدا اُس گناہ کو ناپسند کرتا ہے اور اپنے بندے ناتن کے وسیلے اُس سے ہمکلام ہوتا ہے۔ یہ اُس وقت کی بات ہے جب داؤد نے اپنے سپاہی حتی اور یاہ کو قتل کروادیا تھا تاکہ اُس کی بیوی کو لے لے تاکہ وہ اُس کی بیوی بنے۔ خُدا اُسے کہتا ہے کہ آج سے تیرے گھر سے تلوار کبھی الگ نہ ہوگی۔ اور اُس کی زندگی میں پیش آنے والے واقعات میں سے اُس کے بیٹے ابی سلوم کا اپنے بھائی امنون کو قتل کر دیا اور اِس کے بعد داؤد کے تخت پر قبضہ کرنا اور اُسے مار ڈالنے کی کوشش کرنا۔ یہ وہ باتیں ہیں جنہیں ہم نے اُس کے حالات زندگی میں سے دیکھا لیکن اہم بات یہ تھی کہ اُس کا توکل ہر طرح کے حالات میں خُداوند اُس کے خُدا پر تھا

اور خُدا اُسے بحال کرتا تھا اور اُس کی مدد کو آتا تھا۔ وہ اس زبور کے آخر میں اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ نجات خُداوند کی طرف سے ہے اور کہتا ہے کہ تیرے لوگوں پر تیری برکت ہو۔ تو ابھی آج کے اس وقت میں ہم چوتھے زبور پر بات کرنے کو ہیں اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ حالات بالکل مختلف قسم کے ہیں۔ ہم یہاں پر ایک راستباز زندگی کے بارے میں بات کریں گے اور یہ بھی کہ خُدا کیا چاہتا ہے کہ ہم اُس کی خاطر کریں۔ اور لوگوں سے خُدا کا پیار اور یہ بھی کہ وہ اس پیار کو ایک دوسرے کے ساتھ بانٹیں، تو یہ وہ باتیں ہیں جنہیں ہم اس چوتھے زبور میں سے دیکھیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے اس زبور کا باقاعدہ طور پر مُطالعہ کرتے ہیں۔ تو یہ میں یہاں پر اس زبور کا خُود کیا ہوا عبرانی ترجمہ پیش کرنے کو ہوں۔ تو جس طرح سے عبرانی میں اس کا ترجمہ کیا گیا اُس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کون سے الفاظ ہیں جن پر زور دیا گیا ہے۔

تو اس چوتھے زبور میں سب سے پہلے اس زبور کا ٹائٹل پایا جاتا ہے۔ یہ وہ ٹائٹل ہے جسے ہم عبرانی بائبل میں سے دیکھتے ہیں جو کہ اس کا لُب لباب کہلاتا ہے۔ تو جب ہم چوتھے زبور میں اس پر غور کرتے ہیں تو وہاں پر یوں لکھا ہوا ہے:

میرِ مُغنی کے لئے تاردار سازوں کے ساتھ داؤد کا مزمو

آئیے ہم باقاعدہ طور پر اس زبور پر بات کرتے ہیں اور سب سے پہلے اسے باقاعدہ طور پر پڑھتے ہیں جہاں پر یوں لکھا ہوا ہے:

جب میں پُکاروں تو مجھے جواب دے اے میری صداقت کے خُدا!
تنگی میں تُو نے مجھے کُشادگی بخشی۔ مجھ پر رحم کر اور میری دُعا سُن لے۔
اے بنی آدم! کب تک میری عزت کے بدلے رسوائی ہوگی؟
تُم کب تک بطالت سے محبت رکھو گے اور جھوٹ کے در پے رہو گے۔ (سلاہ)
جان رکھو کہ خُداوند نے دیندار کو اپنے لئے الگ کر رکھا ہے
جب میں خُداوند کو پُکاروں گا تو وہ سُن لیگا۔
تھر تھراؤ اور گناہ نہ کرو
اپنے اپنے بستر پر دل میں سوچو اور خاموش رہو (سلاہ)
صداقت کی قُربانیاں گُزرانو
اور خُداوند پر توکل کرو۔
بہت سے کہتے ہیں کہ کون ہم کو کُچھ بھلائی دکھائیگا؟
اے خُداوند تُو اپنے چہرے کا نُور ہم پر جلوہ گر فرما۔
تُو نے میرے دل کو اُس سے زیادہ حُوشی بخشی ہے
جو اُن کو غم اور مے کی فراوانی سے ہوتی ہے۔
میں سلامتی سے لیٹ جاؤنگا اور سو رہوں گا
کیونکہ اے خُداوند فقط تُو ہی مجھے مُطمئن رکھتا ہے۔

سلاہ عبرانی زبان کا لفظ ہے لیکن ہم نہیں جانتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے۔ یہ شاید عبرانی زبان میں موسیقی کی ایک اصطلاح ہے۔ شاید وہ اسے اس مقصد کے لئے استعمال کرتے ہونگے کہ شاید وہ حصے جہاں پر ہمیں رُکنا ہے وہاں پر اس لفظ کو استعمال کیا جاتا ہوگا۔

تو اس زبور کے تعلق سے میں یہ کہوں گا کہ یہ بھی اُسی دوران کا زبور ہے جب داؤد ابی سلوم کے سامنے سے بھاگا تھا جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے زبور میں بھی اُسی کے تعلق سے بات کی تھی۔ تو جس طرح کہ وہ کہتے ہیں کہ تیسرا زبور صُبح کا زبور ہے اور یہ یعنی چوتھا زبور شام کا زبور ہے۔ تیسرے زبور میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہوا ہے کہ میں جاگ اُٹھا کیونکہ خُداوند مجھے سنبھالتا ہے۔ اور پھر چوتھے زبور کی آخری آیت میں اس کے بارے میں یوں لکھا ہوا ہے کہ میں سلامتی سے لیٹ جاؤنگا اور سو رہوں گا کیونکہ اے خُداوند! فقط تُو ہی مجھے مُطمئن رکھتا ہے۔ لیکن اس کے بارے میں کوئی خاص ثبوت ہمارے پاس نہیں پایا جاتا ہے۔ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ اُس وقت کے بارے میں ہو جب ساؤل اُس کا پیچھا کر رہا تھا یا ممکن ہے کہ اُس وقت کے بارے میں ہو جب وہ ابی سلوم کے خوف سے بھاگا تھا۔ ہم درحقیقت یقین سے اس بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس کے ٹائٹل میں بھی اس بارے میں خاص طور پر بیان نہیں کیا گیا ہے۔ لیکن ایک بات جس پر ہم نے تیسرے زبور پر غور کیا تھا وہ یہ ہے کہ خُدا نے داؤد کو اُس کے مخالفوں کے ہاتھ میں نہیں پڑنے دیا تھا۔ بلکہ خُدا نے اُسے سرفراز کیا تھا اور اُسے دوبارہ اُس کی بادشاہی اور تخت پر بحالی عطا کی تھی۔ تو ممکن ہے کہ

اُس نے یہ زبور اُس وقت لکھا ہو تا کہ کلیسیا کے لئے ایک راہنمائی ثابت ہو۔ تاکہ لوگ اسے اپنی شخصی زندگیوں میں عملی طور پر استعمال میں لاسکیں۔ تو یوں ہم اس کے بارے میں خیال کرتے ہیں لیکن ہم حقیقت سے آگاہ نہیں ہیں۔ تو اگر ہم اپنے پاس پائے جانے والے تحریری مواد کی جانب بڑھیں اور اس کے بارے میں دوسرے صفحہ پر دیکھیں تو وہاں پر ہمیں کچھ ایسی باتیں دیکھنے کو ملتی ہیں جو کہ اسے موسیقانہ بناتی ہیں۔ بہت سے الفاظ ہیں جو عبرانی میں ایک جیسے پائے جاتے ہیں، بے شمار نظمیں ہیں جو عبرانی میں پائی جاتی ہیں۔ تو یہاں پر آپ کے پاس موجود تحریری خاکے میں جہاں پر یہ بیان کیا گیا ہے کہ میں سلامتی سے لیٹ جاؤنگا اور سو رہوں گا۔ تو اس کے بارے میں عبرانی زبان میں اس کی ترتیب یوں پائی جاتی ہے کہ سلامتی کے ساتھ میں لیٹ جاؤنگا اور میں سو جاؤنگا کیونکہ تو اے یہواہ صرف تو ہی مجھے اپنی محافظت میں قائم رکھے گا۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جنہیں آپ عبادتخانے میں یا جب کبھی آپ اس زبور کے بارے میں تشریح بیان کریں تو اس کا دھیان رکھ سکتے ہیں کہ درحقیقت ان الفاظ کی ترتیب کیا پائی جاتی ہے تاکہ آپ ان میں سے اُن الفاظ کو جان سکیں جن پر اس میں خاص طور پر زور دیا گیا ہے۔ تاکہ معنوں کو وضاحت کے ساتھ جانا جاسکے۔

تو پہلی آیت میں جیسا کہ ہم نے پڑھا ہے یوں لکھا ہوا ہے کہ:

جب میں پُکاروں تو مجھے جواب دے اے میری صداقت کے خُدا!

تنگی میں تُو نے مجھے کُشادگی بخشی۔ مجھ پر رحم کر اور میری دُعا سُن لے۔

ہم دیکھ سکتے ہیں کہ زبور نویس اس پہلی آیت میں خُدا کے سامنے اپنی ۴ درخواستیں پیش کرتا ہے۔ وہ ان چار باتوں کو خُداوند خُدا کے حضور میں رکھتا ہے۔ ہم سب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ خُدا ہماری دُعاؤں کو سُنتا بھی ہے اور اُن کا جواب بھی دیتا ہے۔ یوں وہ اپنی مدد کے لئے خُدا کو پُکارتا ہے۔ وہ ایسا کرتے ہوئے خاص طور پر تسلی کو محسوس کرتا ہے، اُسے ایسا کرنے سے ایک سکون حاصل ہوتا ہے۔ یہاں پر غور کیا جائے تو جو لفظ خُدا کے لئے استعمال کیا گیا ہے اُس سے مراد یہوواہ خُدا نہیں ہے بلکہ وہ لفظ ہے جو کہ ایلوہیم خُدا کے لئے استعمال ہوتا ہے جو کہ اُس کی بادشاہی کو ظاہر کرتا ہے۔ اس بات کی نمائندگی کرتا ہے کہ خُدا کی بادشاہی آسمان اور زمین میں قائم ہے۔ لیکن جہاں تک خُدا کے نام یہوواہ کے بارے میں ہم نے بات کی تھی تو ہم نے دیکھا تھا کہ یہ درحقیقت خُدا کا مُقدس نام ہے خُدا کا ذاتی نام۔ پُرانے عہد نامے میں سے اگر ناموں کے بارے میں دیکھا جائے تو وہ لوگ اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ وہ جو نام اپنے بچوں کا رکھتے تھے اُس کے مطلب کا اُن بچوں کی شخصیت کے ساتھ ایک گہرا تعلق پایا جاتا تھا۔ یوں آپ کے نام کی مُناسبت سے آپ کے بارے میں خیال کیا جاتا تھا۔ کچھ لوگ اسے اس معنوں میں بھی لیتے تھے کہ کوئی بھی تعلق کو قائم کرنے سے پہلے نام کے بارے میں خیال کیا جاتا تھا۔

تو ہم پُرانے عہد نامے میں سے دیکھتے ہیں کہ خُدا نے ابرہام پر اپنے اس نام کو ظاہر کیا تھا اور اُسے اس بات کی آگاہی بخشی تھی کہ یہ ہی وہ نام ہے جس سے اُسے آنے والے وقت میں

پُکارا جائے گا۔ خُدا نے اپنے آپ کو اپنے بندے ابرہام پر اپنی حقیقی نام یہوواہ سے ظاہر کیا تھا۔ جب اُس نے اُسے کہا کہ میں جو ہوں سو ہوں۔ لیکن خُدا کا جو لقب ہے جس سے ہم اُسے پُکارتے ہیں ہیں وہ لیلوہیم ہے جس میں خُدا ہم پر بطور ایک مُنصف ظاہر ہوتا ہے۔ اور اگر پُرانے عہد نامے میں سے دیکھا جائے تو یہ لفظ لیلوہیم یہودی بزرگوں کے لئے بھی استعمال میں لایا جاتا رہا ہے۔ وہ لوگوں کی راہنمائی کا کام کرتے تھے وہ قوم کے بزرگ کہلاتے تھے تو اُنہیں لیلوہیم کے نام سے پُکارا جاتا تھا اور یہاں پر لیلوہیم کے لفظی معنوں میں مُنصف لیا جاتا ہے۔ اِس کے بارے میں یوں بھی تذکرہ ملتا ہے کہ اگر قوم کے بزرگوں کو لیلوہیم کے نام سے پُکارا جاسکتا ہے تو خُدا کے پٹے کو خُدا کا بیٹا کیوں نہیں کہا جاسکتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ یہودی راہنماؤں میں سے کچھ کو لیلوہیم کہا جاتا تھا جس سے مُراد ایک مُنصف تھا۔ وہ اُن کے راہنما ہوتے تھے اور قانونی طور پر اُنہیں راہنمائی فراہم کرتے تھے۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں کوئی گورنر یا کوئی مُنصف یا کوئی بادشاہ ہیگل میں موجود ہوتا ہے تو اُسے ایک اُستاد یا کاہن سے بڑھ کر خیال کیا جاتا تھا۔

تو جب اِس چوتھے زبور کی پہلی آیت میں خُدا کا بندہ داؤد یوں کہتا ہے کہ اے میری صداقت کے خُدا تو وہ درحقیقت لیلوہیم کے بارے میں کہہ رہا ہوتا ہے۔ جب ہم لفظ صداقت کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اِس کا تعلق صدق کے ساتھ جا ملتا ہے جس سے مُراد راستبازی، انصاف اور وہ کام جن سے انصاف اور راستی کو ایک معیاری فروغ حاصل ہو۔

اس لفظ کو اخلاقی اور معاشرتی طور پر خاصی اہمیت حاصل ہے۔ تو یوں راستبازی ایک قانونی اہمیت کی حامل ہے کیونکہ اس میں رحم اور مہر پائی جاتی ہے۔ یہ بھلائی کے کاموں کو ظاہر کرتی ہے اور داؤد کو راستباز کہا گیا تھا جس کی وجہ اُس کے کئے جانے والے بھلائی اور راستی کے کام تھے۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ خُدا نے اُسے مسح کیا تھا کہ وہ اُس کی قوم اسرائیل کا بادشاہ بنے۔ یوں وہ خُدا یعنی ایلوہیم کی سرپرستی میں اسرائیل پر حکومت کیا کرتا تھا۔ اور وہ لوگوں کے سامنے خُدا یعنی ایلوہیم کی نمائندگی کیا کرتا تھا۔ اور اُس کی ذمہ داری تھی کہ وہ جہاں پر ضرورت ہوتی تھی راستی کو استعمال میں لاتا تھا اور جہاں خُدا کی مرضی ہوتی تھی وہ رحم کیا کرتا تھا اور وہ راستی کے ساتھ اپنے خُدا کی مدد سے لوگوں کو انصاف فراہم کیا کرتا تھا۔ تو یہاں پر اس کی پہلی آیت میں ایک دلچسپ بات یہ پائی جاتی ہے کہ وہ خُدا کو مخاطب کرتے ہوئے یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ اے راستبازی کے خُدا بلکہ وہ یوں کہتا ہے کہ اے میری صداقت (راستبازی) کے خُدا۔ یہاں پر ہمیں یہ بحث نہیں ملتی ہے کہ داؤد راستباز ہے یا نہیں بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خُدا راستباز ہے اور اُس کے بارے میں وہ کہتا کہ اے میری صداقت کے خُدا۔ یوں ہم یہ اخذ کرتے ہیں کہ داؤد کی ساری راستبازی اور اُس کی ساری انصاف پسند کا سرچشمہ خُدا کی ذات ہے۔ وہ اُس میں قائم ہے اور اُس کی راستی اور صداقت داؤد کی زندگی میں سے ہمیں نظر آتی ہے۔ تو یوں صداقت ایک قانونی چیز ہے اور اگر میں اسرائیل کے عدالتی نظام میں ہوتا تو میں بھی ایک راستباز ہو سکتا تھا۔ میں مُنصف کے

پاس جاتا اور وہ میرے بارے میں پڑتال کرتے ہوئے مجھے راستباز ٹھہرا سکتا تھا۔ تو اس سب کچھ کو بیان کرنے سے مراد یہ ہے کہ راستباز ہونے اور راستباز ٹھہرائے جانے میں ایک فرق پایا جاتا ہے۔ جب آپ کو راستباز ٹھہرایا جاتا ہے تو آپ درحقیقت تب راستباز بنتے ہیں۔ اگر نئے عہد نامے میں سے غور کیا جائے تو جب میں عبادتخانے میں داخل ہوتا ہوں تو میری گزرائی جانے والی قربانیوں کی وجہ سے مجھے راستباز ٹھہرایا جاتا ہے۔ تو یوں نئے عہد نامے میں ایک شخص کو راستباز ٹھہرایا جاتا تھا۔ لیکن اسے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ میں پاک اور سب گناہوں سے مُبرا ہوں یا مجھے مُعاف حاصل ہے بلکہ اس سے مراد معصومیت ہے جو آپ کو خدا کی طرف سے حاصل ہوتی ہے۔ جس طرح سے ہم میں سے ہر ایک نئے اور پُرانے عہد نامے میں سے خدا کی راستبازی کو تفصیل کے ساتھ دیکھ سکتا ہے۔ پُرانے عہد نامے کی شریعت میں یہ تھا کہ اگر کوئی شخص کوئی خطا کرتا تھا تو ایک جُرمانہ مُقرر ہوتا تھا جسے ادا کرتے ہوئے ہم اُس سے آزادی حاصل کر لیتے ہیں۔ تو یوں آپ پھر سے بحال ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ اُس غلطی کا قانونی طور پر مُقرر ہونے والا جُرمانہ ادا کر چکے ہوتے ہیں۔

ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ صداقت لفظ صدق سے نکلا ہے اور ہم بہت اچھی طرح سے ملک صدق سے واقف ہیں۔ ملک سے مراد بادشاہ اور صدق سے مراد راستبازی۔ تو وہ یوں راستبازی کا بادشاہ کہلاتا ہے۔ تو اس ساری بات سے ایک بات جو واضح ہوتی ہے وہ یہ کہ راستبازی ایک قانونی اہمیت کی حامل ہے۔

اسی آیت کی دوسرے حصے کی جانب بڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر یوں لکھا ہوا ہے کہ تنگی میں تُو نے مجھے کُشادگی بخشی۔ میں نے پُرانے عہد نامے کا مطالعہ کرتے ہوئے اس بات کا بہت دفعہ تجربہ کیا ہے۔ خُدا ہمیں جب تنگی میں کُشادگی بخشتا ہے تو وہ ہمارے اُن کاموں کو آدھے گھنٹے میں کر دیتا ہے جنہیں کرنے کے لئے ہمیں عام طور پر ڈیڑھ گھنٹا درکار ہوتا ہے۔ اُس وقت جب ہم دباؤ کا شکار ہوتے ہیں جب ہمیں بہت سے کاموں کو مُشکل حالات میں سرانجام دیتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ میں جب ان اقتباسات کا مطالعہ کرتا ہوں تو میں بہت تسلی پاتا ہوں جب میں یہ پڑھتا ہوں کہ اُس نے میرے پاؤں کھلی جگہ پر رکھے ہیں۔ یعنی اُس نے مجھے کھڑا ہونے کو کُشادہ جگہ مہیا کی ہے۔ کیونکہ اگر ہم اسرائیلی تاریخ کو دیکھیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اُنہیں بہت ہی تنگ راستوں پر چلنا پڑتا تھا۔ لیکن خُدا نے اپنے وعدے کے مطابق اُنہیں رہنے کے لئے ایک کھُلا اور اچھا ٹُک دیا تھا۔ اور نہ صرف رہنے کے لئے بلکہ اُس نے اُنہیں بے بہا برکات دیں اور اُنہیں ایک خوشحال قوم بنا دیا تھا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر آپ ایک ڈھلوان سطح پر چل رہے ہوں تو اس بات کے بہت زیادہ امکانات ہوتے ہیں کہ آپ پھسل سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ایک کھُلی اور کُشادہ جگہ پر کھڑے ہوں تو اس بات کا کوئی امکان نہیں رہتا ہے بلکہ آپ ایک ہموار جگہ پر ہوتے ہیں جہاں سے آپ اپنی مرضی کے مطابق حرکت کر سکتے ہیں۔ اسی لئے داؤد اس بات کو بیان کرتا ہے کہ تُو نے مجھے کُشادگی بخشی۔ لیکن میں ایک بات اور بھی کرنا چاہوں گا کہ کبھی کبھی ایسا

بھی ہوتا ہے کہ ہم خُدا سے دُعا کرتے ہیں کہ خُداوند تُو مجھے کُشادگی عطا کر لیکن بعض اوقات وہ ہمیں کُشادگی عطا نہیں کرتا ہے۔ لیکن وہ ہر وقت میری راہنمائی کرتا ہے کہ میں کُشادہ یا تنگ راستے پر چلوں لیکن میری سب راہوں میں وہ میرے ساتھ ہوتا ہے اور مجھے پھسل جانے سے محفوظ رکھتا ہے۔ ق

تو آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے اگلے حصے میں یوں لکھا ہوا ہے کہ مجھ پر رحم کر اور میری دُعا سُن لے۔ رحم کے لفظ کا پُرانے اور نئے عہد نامے میں بے شمار بار ذکر ملتا ہے۔ عبرانی میں اگر رحم کو دیکھا جائے تو اس کے لئے لفظ حینہ استعمال ہوتا ہے۔ اور بہت سے لوگ تھے جو اپنے بچوں کے نام حیناہ رکھتے تھے جیسے کہ خنہ کا ذکر ہمیں ملتا ہے تو اس سے مُراد رحم ہے۔ اور ہمیں نئے عہد نامے میں سے بھی اس کے بارے میں بہت سے الفاظ ملتے ہیں جن سے مُراد رحم ہے اور اسے فضل کے معنوں میں بھی لیا جاتا ہے۔ اور فضل کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو فضل وہ چیز ہے جس کے ہم حق دار نہیں ہوتے ہیں یا جس کے ہم مُستحق نہیں ہوتے ہیں لیکن تو بھی وہ ہمیں عطا کی جاتی ہے یوں یہ بخشش کے معنوں میں آتی ہے۔ لیکن جب ہم رحم کے بارے میں دیکھتے ہیں تو یہ وہ چیز ہے جس کے ہم مُستحق ہوتے ہیں اور وہ میں عطا کر دی جاتی ہے یعنی ہم پر رحم کر دیا جاتا ہے۔ یوں رحم اور فضل کے معنوں میں ایک اختلاف پایا جاتا ہے۔ یہ فضل ہے کہ جب ہم گناہگار ہی تھے تو مسیح ہمارے گناہوں کی خاطر موا۔ اگرچہ ہم اس لائق تھے کہ اپنی ابدیت ہلاکت میں

گزارتے لیکن اُس کے فضل کی بدولت ہم نے ابدی زندگی اور خُدا باپ تک رسائی حاصل کی ہے۔ یہ خُدا کا فضل ہے کہ اُس نے مجھے قبول کیا، مجھے اپنے پاس بلایا اور مجھ سے ایک بیٹے کی مانند برتاؤ کیا ہے۔ یہ وہ بات ہے جس کی ایک انسان ہوتے ہوئے توقع نہیں کی جاسکتی ہے۔ یہ درحقیقت وہ سب ہے جس کی ہم خواہش رکھتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ کاش ایسا ہو جائے۔ یوں فضل درحقیقت ایک خوبصورت لفظ ہے جس کا اطلاق انتہائی مقدس معنوں میں ہوتا ہے۔ ہر ایک شخص جو خُدا کے مقدس کے نیچے رہتا ہے وہ اس فضل تک رسائی رکھتا ہے۔ تو آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس چوتھے زبور کی دوسری آیت میں ہماری راہنمائی کے لئے یوں لکھا ہوا ہے:

اے بنی آدم! کب تک میری عزت کے بدلے رسوائی ہوگی؟

تُو کب تک بطالت سے محبت رکھو گے اور جھوٹ کے درپے رہو گے؟ (سلاہ)

تو یہاں پر ہمارے لئے جو بات توجہ طلب ہے وہ یہ ہے کہ اس آیت کا آغاز یوں ہوتا ہے کہ

اے بنی آدم! اس سے مراد ہے اے آدم کے بیٹوں! یہ کوئی عام لفظ نہیں ہے۔

ہمارے پاس موجود تحریری مواد کی روشنی میں سے اگر دیکھا جائے تو چوتھے صفحہ پر اس کے

تعلق سے کچھ بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ وہ لفظ ہے جو کہ ہر ایک انسان کے لئے استعمال میں لایا

جاسکتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اس زبور کے آغاز سے ہی زبور نویس یعنی خُدا کا بندہ داؤد خُدا

کے حضور میں اپنی دُعاؤں کو پیش کرتا ہے اور اس وقت جو بات کی جارہی ہے اُس کا تعلق

بنی آدم یعنی انسانوں کے ساتھ ہے۔ ہم نے کچھ مضامین میں اس لفظ بن پر غور کیا تھا اور یہ لفظ بنی بھی اسی میں سے ہی نکلا ہے۔ بن کا لفظی معنی ہے بیٹا جیسے کہ کیا جاتا ہے کہ بن حر جس سے مراد یہ ہے کہ حر کا بیٹا اور پھر بیٹنجن جس سے مراد ہے کہ میرے داہنے ہاتھ کا بیٹا۔ جب ہم اسی لفظ کو عبرانی زبان میں سے دیکھتے ہیں تو وہاں پر اس کے معنی پیدا ہوا کے ہیں۔ اگر ہم یوں کہتے ہیں شعمون بن یوحنا تو اس سے مراد یہ ہے کہ شعمون جو کہ یوحنا سے پیدا ہوا، عبرانی میں ہم اسے بن یوحنا کہیں گے۔ یوں یہ لفظ کسی شخص کے باپ کی نشاندہی کرتا ہے کہ فلاں شخص درحقیقت فلاں شخص کا بیٹا ہے۔ تو جیسے کہ یہاں پر اس زبور میں بیان کیا گیا ہے کہ بنی آدم۔ تو عبرانی زبان میں آدم کا لفظ آدمی کے لئے استعمال ہوا ہے۔ یہ دونوں الفاظ پیدائش کی کتاب کے پہلے دو ابواب میں وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ اُس نے آدم کو بنایا اور پھر اُس نے آدم میں سے حوا کو بنایا۔ اگرچہ یہ دونوں انسان ہیں لیکن آدم کے بارے میں اُس نے بیان کیا ہے کہ خُدا نے اُسے اپنی صورت پر بنایا تھا۔ یوں خُدا نے آدم کو بنایا یعنی اُس نے انسان کو بنایا جس سے ہی یہ لفظ انسانیت نکلا ہے۔ لیکن جب ہم اس لفظ آدم کو زبور نویس کے نقطہ نظر سے دیکھتے ہی تو عبرانی زبان میں یہاں پر بیان کئے گئے لفظ آدم سے مراد امیر آدمی ہیں۔ ایسے آدمی جو رئیس ہوں، جو سُورما ہوں، جو معاشرے میں اچھا مقام رکھتے ہوں۔ ہم مزید غور کریں تو ان میں وہ لوگ بھی شامل ہوتے ہیں جو کہ ایک عزت دار نام رکھتے ہیں یا جنہیں قوم کے بزرگوں اور سرداروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ جب ہم ابی سلوم

کے بارے میں دیکھتے ہیں تو اُس نے یروشلیم، جبجہ اور اسرائیل کے بہت سے سرداروں اور
 بزرگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا اور پھر اُس نے بادشاہ کے خلاف بغاوت کی تھی۔ لیکن تو بھی
 وہ مار دیا گیا تھا۔ اور اسی طرح سے ہم ساؤل کے مُعالے میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ جب
 اسرائیل پر کوئی بادشاہ نہیں تھا تو اسرائیلی کے سرداروں اور بزرگوں نے سموئیل کے پاس
 جمع ہو کر اُس سے درخواست کی تھی کہ ہم پر ایک بادشاہ کو مُقرر کر۔ اس سے پہلے سموئیل
 ہی اُن لوگوں کا انصاف کیا کرتا تھا اور وہ خُدا کا پسندیدہ شخص تھا جس سے خُدا پیار کرتا تھا
 اور اُس سے ہمکلام ہوتا تھا۔ تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سموئیل ۸ ویں باب کی پہلی ۸ آیات میں
 وہ لوگ یعنی سب اسرائیلی بزرگ جمع ہو کر رامہ میں خُداوند کے بندے سموئیل کے پاس
 آئے تھے اور اُنہوں نے اُس سے کہا کہ دیکھ تو بڈھا ہو گیا ہے اور تیرے بیٹے تیری راہ پر نہیں
 چلتے ہیں اس لئے اب تو کسی کو ہمارا بادشاہ مُقرر کر دے جو اور قوموں کی طرح ہماری عدالت
 کرے۔ تب خُداوند نے سموئیل سے کہا کہ اُنہوں نے تیری نہیں بلکہ میری حقارت کی ہے
 کہ میں اُن کا بادشاہ نہ رہوں۔ اس لئے اب تو اُن کو بتا دے کہ جو اُن پر بادشاہ ہوگا وہ اُن
 کے ساتھ کیسا سلوک کرے گا۔ اور سموئیل نے اُن لوگوں کو جو اُس سے بادشاہ کے طالب
 تھے خُداوند کی سب باتیں کہہ سنائیں۔ اور یہ بھی کہا کہ خُداوند فرماتا ہے کہ تم اُس دن اُس
 بادشاہ کے سبب سے جسے تم نے اپنے لئے چُنا ہوگا فریاد کرو گے پر اُس دن خُداوند تم کو

جواب نہ دے گا۔ تو بھی لوگوں نے سموئیل کی بات نہ سنی اور کہنے لگے نہیں ہم تو بادشاہ چاہتے ہیں جو ہمارے اوپر ہو۔

یوں یہ اسرائیلی بزرگ ہیں جن کے بارے میں یہاں پر ہمیں زبور ۴ کی دوسری آیت کے آغاز میں سے ملتا ہے۔ جن کے بارے میں ہی یہاں پر ہمیں بیان ملتا ہے کہ کب تک میری عزت کے بدلے رسوائی ہوگی؟ کیونکہ اُن لوگوں نے ابی سلوم کے ساتھ مل کر داؤد کے خلاف تیار کی گئی سازش میں شرکت کی اور داؤد کی عزت کو پائمال کیا۔ تو یہاں پر وہ انہیں یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ خُداوند نے تمہیں ایسا کرنے کے لئے نہیں کہا ہے۔ اس لئے تم کب تک ایسا کرتے رہو گے؟ یہ ٹھیک نہیں تم ایسا کر رہے ہو تو یہ گناہ ہے۔ کب تم یہ گناہ کرتے رہو گے؟ کب تک میری عزت کے بدلے رسوائی ہوتی رہے گی؟ اور پھر اگلے حصے میں بیان کیا گیا ہے کہ:

تم کب تک بطالت سے محبت رکھو گے اور جھوٹ کے درپے رہو گے؟

بطالت کو ایسے معنوں میں بیان کیا جاتا ہے جس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اس سے کوئی کام نہیں لیا جاسکتا ہے، یہ بے پھل ہوتی ہے، اس سے اطمینان نہیں ہوتا ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے اور اسے کسی بھی طور پر مثبت معنوں میں نہیں لیا جاسکتا ہے۔ اور داؤد اسی بات سے حیران ہے کہ یہ تو ایک بے کار چیز ہے پھر یہ لوگ کیوں اس کی جانب بڑھتے جا رہے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے اُن کی آنکھوں پر کسی نے پٹی باندھ دی ہو۔ اور وہ اُس

صورت حال کو بیان کرتا ہے کہ وہ جنگ کرنے کو تیار ہیں لیکن کیا وہ نہیں جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا وجہ پائی جاتی ہے؟ وہ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ وہ حقیقت سے آشنا نہیں ہیں۔ اُن ہی کے بارے میں داؤد کہہ رہا ہوتا ہے کہ اے خُداوند مجھ پر رحم کر اور میری دُعا کو سُن لے۔

جب داؤد اس دوسری آیت میں کہہ رہا ہے کہ

اے بنی آدم! کب تک میری عزت کے بدلے رسوائی ہوگی؟

تُم کب تک بطالت سے محبت رکھو گے اور جھوٹ کے درپے رہو گے؟

تو درحقیقت اس سارے سوالیہ فقرے میں ایک درخواست پائی جاتی ہے۔ اور جیسے ہم اگلی آیت کی جانب بڑھتے ہیں تو وہاں پر بھی ہم اس بات کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ابھی تک اُن ہی لوگوں کے ساتھ مخاطب ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ تیسری آیت میں یوں لکھا ہوا ہے:

جان رکھو کہ خُداوند نے دیندار کو اپنے لئے الگ کر رکھا ہے۔

جب میں خُداوند کو پُکاروں گا تو وہ سُن لیگا۔

وہ اُن سے کہتا ہے کہ ٹھیک اگر تُم میری مخالفت کرنا بند نہیں کرو گے اور تُم میرے خلاف اکٹھے ہوئے کہ مجھے جان سے مار دو اور یہ کہتے ہو کہ خُدا کی طرف سے میری کمک نہیں ہے۔

تو میں تمہیں اس بات سے خبردار کرتا ہوں کہ تُم بھی یہ جان لو کہ خُداوند میرے ساتھ ہے۔ تُم میرے قریب نہیں آسکتے ہو اور تُم میرا کُچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے ہو۔ کیونکہ میں خُدا کے لئے خاص ہوں نہ صرف داؤد بلکہ ہم میں سے ہر ایک خُداوند کی نگاہ میں اہمیت کا حامل

ہے۔ اُس نے مجھے پُشنا ہے، اُس نے مجھ مسخ کیا ہے اور اپنی قوم کا بادشاہ بنایا ہے۔ وہ کہتا کہ خُداوند میری زندگی کا محافظ ہے۔ اگر میں نے اُس کے خلاف کُچھ غلط کیا ہو تو میں اُس کے آگے جوابدہ ہوں۔ لیکن میں تمہیں یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ خُداوند نے مجھے اپنے لئے الگ کیا ہے۔ اُس نے مجھے الگ کیا ہے کہ میں اُس کی قوم کا بادشاہ ہو، اُس کی قوم کا نبی ہو۔ اور اُس کی قوم کی اصلاح کے لئے خُدا کے احکامات اُنہیں سکھا سکوں۔ اسی طرح سے آج بھی خُداوند نے ہم میں سے ہر ایک کو اپنے لئے الگ کیا ہے اور ہمیں مختلف شعبوں میں اپنے جلال کے لئے استعمال میں لارہا ہے۔ اور وہ بیان کرتا ہے کہ اگرچہ میں اِس حالت میں ہوں تو بھی میں خُدا کے ساتھ ایک خاص تعلق میں بندھا ہوا ہوں۔ اور یاد رکھیں کہ الگ کرنا کو ہم مخصوص کرنے کے معنوں میں لیتے ہیں لیکن یہاں پر استعمال کیا جانے والا لفظ اِس سے مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ نئے عہد نامے میں مُقدس کرنا، مخصوص کرنا اور الگ کرنا کے الفاظ کو ہم انہی معنوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر یہ دیکھتے ہیں کہ خُدا نے اُسے یہودیوں میں سے اپنے لئے الگ کیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ خُدا کی نظر میں کیا اہمیت رکھتا ہے اسی لئے وہ کہتا ہے کہ مجھے خُدا نے اپنے لئے الگ کیا ہے۔

اگر ہم مُقدس کئے جانے پر غور کریں تو ہمیں سب سے پہلے جو بات اِس میں سے ملتی ہے تو اُس کے مطابق پہلی قسم کا الگ کیا جانا مذہبی طور پر استعمال میں آتا ہے۔ اِسے ہم مُقدس کرنے کے معنوں میں لیتے ہیں، عالم اِس بات کو جانتے ہیں کہ یہاں پر خُدا کا اُسے الگ کرنا

بالکل اس بات کے برابر تھا جس طرح سے ایک سردار کاہن کو خُدا الگ کرتا ہے۔ ہو سکتا کہ کہ خُدا آپ کو الگ کرتے ہوئے کسی بھی شعبے میں لے جائے گا آپ کمپیوٹر سیکھانے والے بن سکتے ہیں، آپ دُکاندار بن سکتے ہیں اور یوں آپ کسی بھی پیشے سے مُنسلک ہو سکتے ہیں۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ خُدا آپ کے ساتھ ہوگا اور وہ آپ کو ہمیشہ کے لئے تبدیل کرتے ہوئے اپنے لئے الگ کر دے گا۔ تو یہ اس حوالے سے پہلی بات ہے جسے ہم مُقدس کئے جانے کے معنوں میں استعمال کرتے ہیں۔

تو دوسری بات جو ہم اس تعلق سے دیکھتے ہیں اُس میں ہم اُس الگ کی جانے والی چیز کو خاص طور پر لیتے ہیں۔ ہم اُس کے بارے میں خاص طور پر ہر بات کا خیال رکھتے ہیں۔ ہم اُس کے بارے میں کچھ مختلف رویہ رکھتے ہیں، ہم اُسے خاص برتاؤ میں لیتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی جیسے ہم کسی ایسے انسان کے ساتھ اپنے تعلقات رکھتے ہیں جسے ہم بہت زیادہ عزیز جانتے ہیں اور ہم اُسے عام انسانوں سے بڑھ کر جانتے ہیں۔ اور بہت سے مُقامات پر اس کے لئے لفظ شاندار استعمال میں لایا گیا ہے۔ اگرچہ ہمارے تعلقات ہر ایک کے ساتھ اچھے ہونے چاہئے لیکن کچھ لوگوں کے لئے ہمارے تعلقات میں ایک خاص گرمجوشی پائی جاتی ہے۔ اس سے مُراد ایسے لوگ بھی لئے جاتے ہیں جنہیں بادشاہ تک براہ راست رسائی حاصل ہو، جو اُس کے محرم راز ہوں۔ جنہیں یہ شرف حاصل ہو کہ وہ اُس کی نگاہ میں اہم جانے جاتے ہیں۔

اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو لوگ اس زمرے میں آتے ہیں وہ وفادار کہلاتے ہیں۔ کیونکہ خدا وفادار ہے اسی لئے وہ ایسے لوگوں کو بے حد پسند کرتا ہے جو اُس کے ساتھ وفاداری کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ خدا اُن کے ساتھ اپنی مقدس باتوں کو بانٹتا ہے جنہیں وہ وفادار پاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ اس سے مراد ہرگز وہ لوگ نہیں ہیں جو اپنے سارے دل اور جان سے خداوند سے پیار کرتے ہیں بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں خدا اپنے لئے وفادار پاتے ہوئے الگ کرتا ہے۔ اس طرح کے لوگوں میں خدا کے لئے پائے جانے والے پیار میں ایک وفاداری پائی جاتی ہے۔ اور آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں اور جو کچھ بھی کہتے ہیں اُس میں ایک سچائی اور وعدے کی پاسداری پائی جاتی ہے۔ یہ شخص اپنے وعدے میں سچائی اور پاسداری کا خیال رکھتا ہے جو کہ خدا کے لئے اُس کے الگ کئے جانے کی گواہی ہوتا ہے۔ اور یہ وہ شخص ہوتا ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ خدا کا بندہ ہے، وہ خدا کا پسندیدہ ہے۔

یاد رکھیں کہ ہم ان باتوں پر اس آیت کے تعلق سے غور کر رہے ہیں کہ خدا نے دیندار کو اپنے لئے الگ کر رکھا ہے۔

تو خدا اُن لوگوں کو تلاش کرتا ہے، پسند کرتا ہے جو خدا کے ساتھ ایک خاص تعلق رکھتے ہوں تاکہ دوسروں کے لئے مددگار اور بابرکت ثابت ہو سکیں۔ اسے ہم کچھ کچھ بھلائی کے معنوں میں بھی لے سکتے ہیں۔ اس سے مراد خدا کی طرح کا دل رکھنا ہے۔ ہر وہ کام جو میں کرتا ہوں اُس میں مجھے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ خدا مجھے دوسروں کی مدد کے لئے استعمال

میں لارا ہے۔ جس میں میں خود، میرا خاندان اور دوسرے تمام لوگ شامل ہیں جو میرے
آس پاس رہتے ہیں۔ اگر میں اُن کے بارے میں بوجھ رکھتا ہوں اور اُن کی ذہنی اصلاح کرنے
کی کوشش کرتا ہوں تو میں اُنہیں خُدا کے اور زیادہ قریب لانے کا سبب بن سکتا ہوں۔

تو یوں ایک دیندار آدمی ایک اچھا دل رکھنے والا انسان ہو سکتا ہے۔

تو ابھی تک ہم نے اس زبور میں سے زبور نویس کی دُعاؤں کے تعلق سے غور کیا ہے اور پھر

یہ کہ وہ یہ اقرار کرتا ہے کہ خُدا ہی نے مجھے تنگی میں کُشادگی بخشی ہے اور اب بھی وہ خُدا

سے ہی کہتا ہے کہ تُو مجھ پر رحم کر اور میری دُعا سُن لے۔ اور پھر اس کے بعد وہ اپنی قوم

کے بزرگوں سے مخاطب ہوتا ہے اور اُن سے کہتا کہ تُم کب تک ایسا ہی کرتے رہو گے؟ تُم

کب تک میرے خلاف صف بستہ رہو گے؟ اور پھر آگے بڑھتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے کہ وہ

کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر تُم ایسا ہی کرتے رہو گے تو یاد رکھو کہ خُدا نے بھی مجھے اپنے لئے

الگ کیا ہوا ہے۔ اگر تُم میرے ساتھ ایسا کر رہے ہو تو تُم یہ سب کُچھ میرے ساتھ نہیں

کر رہے ہو بلکہ یہ سب کُچھ تُم خُدا کے مسموح کے ساتھ کر رہے ہو جسے اُس نے اپنے لئے الگ

کیا ہے اور اپنی قوم کا بادشاہ بنایا ہے۔ تُم نے مجھے اس طرح کی صورت حال میں ڈال دیا ہے

کہ میں اپنی قوم کے لئے اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کر پارہا ہوں۔ اس لئے اس بات کو یاد

رکھو اور جان لو کہ خُداوند نے دیندار کو اپنے لئے الگ کر رکھا ہے۔ جب میں خُداوند کو

پُکاروں گا تو وہ سُن لے گا۔

آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اگلی آیت میں ہمارے لئے یوں لکھا ہوا ہے:

تھر تھراؤ اور گناہ نہ کرو

اپنے اپنے بستر پر دل میں سوچو اور خاموش رہو۔

اس دوسرے حصے کے بعد میں یہاں پر سلاہ لکھا ہوا ہے جو کہ موسیقی کی ایک اصطلاح ہے۔
خُدا کا بندہ داؤد اس آیت میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اُن ہی لوگوں سے مخاطب ہے جن کے بارے میں ہم نے اس سے پہلے کی آیات میں غور کیا ہے۔ وہ انہیں ہدایت کرتا ہے کہ تھر تھراؤ اور گناہ نہ کرو۔ یہاں پر گناہ کے لئے جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ وہی لفظ ہے جو کہ نئے عہد نامے میں گناہ کے لئے استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ اس سے مراد ہر طرح کا گناہ ہے جو خُدا کی نظر میں ناپسند ہے۔ اس میں وہ تمام باتیں شامل ہوتی ہیں جنہیں ہم کرتے، دیکھتے یا بولتے ہیں۔ خُدا کے پاک کلام میں بار بار گناہ کے تعلق سے بات کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ انسان کو کیا کرنا چاہئے اور کیا نہیں کرنا چاہئے۔ کونسی باتیں ہیں جنہیں خُدا پسند کرتا ہے اور کیا کچھ ہے جسے وہ ناپسند کرتا ہے اور جس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہئے۔ اُس کے پاک کلام میں لکھا ہوا ہے کہ جو کچھ کرو جی سے کرو اور یہ جان کر کرو کہ خُدا کے لئے کرتے ہو۔ اور اگر ہم یہ جانتے ہوئے بھی اس بات کی نافرمانی کریں تو ہم گناہ کرتے ہیں اور یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ تھر تھراؤ اور گناہ نہ کرو۔ خُدا کا خوف اپنے دل میں رکھو اور اُس کے خلاف کچھ بھی کرنے سے ڈرو۔ کچھ بھی کہنے سے پہلے یہ ضرور سوچ لو کہ جو کچھ آپ بولنے والے ہیں اُس

میں کوئی ایس بات تو نہیں پائی جاتی ہے جو خُدا کو پسند نہ ہو۔ اِس لئے یہاں تک خیال رکھیں کہ کُچھ بھی بولنے سے پہلے خُدا کا خوف اپنے دل میں رکھیں۔ اور کُچھ خاص باتوں کے بارے میں جب تک آپ خُدا کے ساتھ مشورہ نہیں کر لیتے ہیں اُس وقت تک خاموشی اختیار کر رکھیں۔ یوں آپ جو کُچھ بھی کریں گے اُس میں کامیاب ہونگے اور خُدا آپ کے مدد کرے گا۔

اپنے اپنے بستر پر دل میں سوچو اور خاموش رہو۔

جب آپ سونے کے لئے بستر پر لیٹتے ہیں تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی سوچوں میں وہ تمام باتیں آنا شروع ہو جاتیں ہیں جو سارے دن میں آپ کے ساتھ پیش آتیں رہیں ہیں۔ اُن میں سے بہت سی ایسی بھی ہوتیں ہیں جو خُدا کو پسند ہیں اور کُچھ ایسی بھی ہیں جنہیں وہ پسند نہیں کرتا ہے۔ بعض اوقات ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے لیکن تو بھی ہم ایسا کرتے ہیں۔ تو اِس طرح کے خیالات ہمیں بار بار آتے رہتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ اگر ایسا کرنا ٹھیک نہیں تھا تو پھر میں نے ایسا کیوں کیا تھا۔ اِسی کے بارے میں زبور نویس کہتا ہے کہ اپنے اپنے بستر پر دل میں سوچو اور خاموش رہو۔ جب ہم خاموشی کے ساتھ کسی بات پر غور کرتے ہیں تو ہمیں اُس کے بارے میں بہتر طور پر فہم حاصل ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل کے چالیس سالہ سفر میں ہم بارہا اِس بات کو دیکھ سکتے ہیں کہ اُنہوں نے بے شمار مرتبہ اُن کاموں کو کیا جنہیں وہ جانتے تھے کہ خُدا پسند نہیں کرتا ہے۔ اُنہوں نے

بطالت سے کام لیا، غیر معبودوں کی پیروی کی، خدا کو ناراض کیا، اُس کے حکموں کو پس پُشت ڈالا، اُسے رنجیدہ کر ڈالا، وہ خدا پر بڑبڑائے اور اُنہوں نے اُس کی قدرت کے بڑے کاموں کو اپنی خطاؤں کی وجہ سے ناچیز جانا۔ اگرچہ اُس خدا نے اُنہیں ہر طرح سے راہنمائی فراہم کی تھی کہ اُنہیں کیا کچھ اور کس طرح سے سرانجام دینا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اُس نے اُنہیں یہ تمام باتیں اُس شکل میں عطا کی تھیں کہ وہ آسانی اسے سمجھ سکتے تھے۔ اس لئے زبور نویس یوں بیان کرتا ہے کہ تھر تھراؤ اور گناہ نہ کرو۔ اپنے اپنے بستر پر دل میں سوچو اور خاموش رہو۔

یہ اس چوتھے زبور کی چوتھی آیت تھی تو آئیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پانچویں آیت میں یوں لکھا ہوا ہے:

صداقت کی قربانیاں گزرانو

اور خداوند پر توکل کرو۔

پرانے عہد نامے میں قربانیوں اور نذروں کے لئے لفظ ذبیحہ استعمال کیا گیا ہے۔ پرانے عہد نامے میں کی جانے والی قربانیوں کے لئے پانچ مختلف قسم کے الفاظ استعمال ہوتے رہے ہیں۔ جسے کہ جو قربانی یہاں پر بیان کی گئی ہے اُس میں اور سوختنی قربانی کے لئے استعمال کئے جانے والے لفظ میں ایک واضح فرق پایا جاتا ہے۔ اور خدا کے حضور میں ستائش کی قربانی، اُس کے حضور میں تقدیس اور اس طرح مختلف الفاظ کو اس کے لئے استعمال کیا جاتا تھا۔

پُرانے عہد نامے میں سے دیکھیں تو نر جانور کو قربانی کے لئے پیش کیا جاتا تھا۔ شاید اس لئے کہ مادہ کو دودھ حاصل کرنے یا بچے حاصل کرنے کے لئے استعمال میں لایا جاتا تھا اس لئے اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ نر کو خُدا کے حضور میں قربانی کرنے کے لئے پیش کیا جانا چلئے۔ لیکن اس بات میں جو اہم اور توجہ کے قابل چیز یہ ہے کہ مادہ سے جو کچھ حاصل کیا جاتا ہے اُس کا تعلق ہمارے آج کے ساتھ ہوتا ہے لیکن جس کام کے لئے نر کو استعمال میں لایا جاتا ہے اُس کا تعلق ہمارے مستقبل کے ساتھ ہے۔ تو یہ سوختنی قربانیاں اس لئے گُذرانی جاتی تھیں کہ آپ اُس سزا سے خود کو محفوظ کر سکیں جس کا سامنا آپ کو ابدیت میں کرنا ہوگا۔ آپ کی گُذرانی ہوئی اس قربانی سے آپ کو گناہوں سے مُعافی حاصل ہوگی اور آپ خُدا کی بادشاہی میں داخل ہو جائیں گے۔ یوں اس بات کا دار و مدار آپ کے اندر پائے جانے والے ایمان اور اعتقاد پر بھی ہوتا ہے۔ جب ہم اس عبرانی لفظ ذبحہ پر بات کرتے ہیں تو یہ ایک طرح کی شفاعتی قربانی ہوتی تھی جسے ساری اُمت کے لئے گُذرانا جاتا تھا۔ تو اس قربانی کو گُذرانتے ہوئے یوں خیال کیا جاتا تھا کہ آپ اور میں مل کر خُدا کی حضوری میں شادمانی کی زندگی بسر کریں گے۔ خُدا نے اس سلسلے میں بہت بہترین طور پر راہنمائی فراہم کی ہے۔ یہ ایک طرح سے ایسے ہے جسے کسی ٹوٹی ہوئی چیز کی مُرمت کی جاتی ہو۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کے لئے کوشاں رہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اُن لوگوں تک دوبارہ رسائی مل جائے جن کے ساتھ ہمارے تعلقات میں کچھ بگاڑ پیدا

ہو گیا ہو۔ یوں قربانی خُدا کے ساتھ آپ کے تعلقات اور خُدا پر آپ کے کامل اعتماد کو ظاہر کرتی ہے۔ راستبازی کے لفظ پر غور کرتے ہوئے ہم نے اسے صدق سے تشبیہ بھی دیا تھا۔ جس کے بارے میں ہم نے اس زبور کی پہلی آیت میں سے غور کیا تھا۔ تو راستبازی کے ساتھ کی جانے والی قربانی اہمیت کی حامل ہے جو کہ آپ کے دل میں پائی جانے والی صداقت کو ظاہر کرتی ہے جسے خُدا پسند کرتا ہے۔ اور توکل کرنا یا اعتماد کرنا درحقیقت اُن معنوں میں آتا ہے جب ہم اپنے آپ کو مکمل طور پر خُدا کے سپرد کر دیتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ جو کچھ بھی کرے گا وہ بھلا ہوگا۔

یہ وہ تمام باتیں ہیں جنہیں ہم کاملیت کے ساتھ خُداوند یسوع مسیح کی شخصیت میں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اُس کی قربانی میں راستبازی پائی جاتی تھی جو اُس کے اندر ہمارے لئے پائے جانے والے پیار کو ظاہر کرتی تھی۔ اُس نے باپ کے ساتھ وفاداری کی ایک کامل مثال قائم کی تھی۔ اُس نے ہماری خاطر فدیہ دیتے ہوئے ہمیں باپ کی پہچان بخشی تھی اور ہماری نجات کے کام کو اپنی جان دیتے ہوئے مکمل کر دیا تھا۔ اُس کی قربانی کامل قربانی تھی جس نے ہمیں رہائی دلائی تھی۔ تو ابھی ہم اس زبور کی پانچویں آیت کے بارے میں دیکھ رہے ہیں جہاں یوں لکھا ہوا ہے کہ:

صداقت کی قربانیاں گُزرانو

اور خُداوند پر توکل کرو۔

تو ابھی آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ۶ آیت ہماری راہنمائی کے لئے یوں لکھا ہوا ہے:

ہمت سے کہتے ہیں کہ کون ہم کو کُچھ بھلائی دکھائیگا؟

اے خُداوند تُو اپنے چہرے کا نُور ہم پر جلوہ گر فرما۔

یہ اُن لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو کہ داؤد کے ساتھ کے لوگ ہیں۔ جو اُس کی اس پریشانی میں اُس کے ساتھ برابر کے شریک ہیں۔ وہ کُچھ ہمت ہارتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ وہ اگرچہ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ داؤد خُدا کا بندہ ہے اور وہ اُسکی مدد کرنے پر قادر ہے۔ لیکن اب دو تین دن بیت چُکے ہیں اور ابھی تک کوئی ایسا معجزہ وقوع پذیر نہیں ہوا ہے کہ جس سے اُن کے حوصلے بلند ہو سکیں۔ وہ شاید خیال کرتے ہوں کہ ابھی خُدا کُچھ ایسا

کردے گا کہ اُس کے دُشمن تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ ابھی آسمان سے آگ نازل ہو اور اُس کے دُشمنوں کو جو یروشلیم میں ہیں بھسم کر دے گی۔ اور داؤد اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک معجزانہ طریقے سے بحالی حاصل کرے گا۔ اسی لئے وہ کہتے ہیں کہ کون ہے جو اس وقت یہاں پر کُچھ ایسا کرے گا کہ ہمارے حوصلے بلند ہوں۔ کون ایسا کرے گا اور کب ایسا ہوگا۔ یوں وہ کسی بھلائی کے نشان کی اُمید پر ہیں اور چاہتے ہیں کہ اُنہیں بھلائی دیکھنے کو ملے۔ داؤد اس زبور میں خُداوند خُدا سے دُعا مانگتا ہے۔ پہلی آیت میں سے ہم نے دیکھا کہ وہ کہتا

ہے کہ جب میں پُکاروں تو مجھے جواب دے۔ اے میری صداقت کے خُدا۔

تنگی میں تُو نے مجھے کُشادگی بخشی۔ مجھ پر رحم کر اور میری دُعا سُن۔

اور پھر اس آیت میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خُدا سے کہتا ہے کہ
اے خُداوند تُو اپنے چہرے کا نُور ہم پر جلوہ گر فرما۔

یہ ایک دُعا تھی جس کے بارے میں ہمیں گنتی کی کتاب میں سے سیکھنے کو ملتا ہے جہاں پر
خُدا خُود اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تُم بنی اسرائیل کو اس طرح دُعا دیا کرنا۔ آئیے ہم اپنی
راہنمائی کے لئے دیکھتے ہیں کہ گنتی کی کتاب کے ۶ باب کی ۲۴ سے ۲۶ آیت میں یوں لکھا
ہوا ہے:

خُداوند تُو مجھے برکت دے اور تُو مجھے محفوظ رکھے۔

خُداوند اپنا چہرہ تُو پر جلوہ گر فرمائے اور تُو مجھ پر مہربان رہے۔

خُداوند اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کرے اور تُو مجھے سلامتی بخشے۔

لیکن یہاں پر ہم دیکھ سکتے کہ بادشاہی کا مسئلہ ہے۔ کیونکہ بادشاہت داؤد کے اپنے بیٹے ابی
سلوم کے ہاتھ میں جا چکی ہے۔ آئیے ہم اسی حوالے سے آستر کے بارے میں کچھ بات کرتے
ہیں۔ آستر کا بادشاہ کے محل میں جانا بے حد ضروری ہو گیا تھا کیونکہ اُس کی ساری قوم کی جان
خطرے میں تھی۔ لیکن اُس وقت کے شاہی قانون کے مطابق ملکہ اُس وقت تک بادشاہ کے
پاس نہیں جاسکتی تھی جب تک کہ بادشاہ اُسے خُود یاد نہیں کرتا تھا۔ لیکن تو بھی اُس کا ایسا
کرنا بہت ہی ضروری ہو گیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس میں جان کا خطرہ پایا جاتا ہے۔ اگر کوئی
بادشاہ کے حضور میں بن بلائے چلا جاتا تھا تو اُس کی جان بخشی بادشاہ کے چہرے کے تاثرات

پر مُنْخَر ہوتی تھی۔ اگر بادشاہ کے چہرے پر غُصے کے تاثرات ہوتے تھے تو اس سے مُراد یہ ہے کہ اُس کے لئے کُچھ اچھا نہیں ہونے والا ہے۔ لیکن جس کی جانب بادشاہ اپنا عصا بڑھا دیتا تھا وہ شخص اُس کے حضور میں مقبول ٹھہرتا تھا۔ یوں یہ ایک مثال ہے کہ بادشاہ کے چہرے کے تاثرات کسی شخص کے مُستقبل کا فیصلہ کرتے تھے کہ کیا اُس کی بات کو سُن لیا جائے یا اُسے مار دیا جائے۔

تو یوں وہ لوگ بھی اس بات کے مُنتظر ہیں کہ خُدا اُن پر اپنے چہرے کو جلوہ گر فرمائے۔ کیونکہ وہ یہ جانتے تھے کہ خُدا کے چہرے کا نُور اُن کے لئے زندگی بخش ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو سب کُچھ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے۔ داؤد اپنے لوگوں کے لئے ابھی بھی بھلائی کا خواہش مند ہے۔ وہ نہیں چاہتا ہے کہ اُن پر خُدا کا غضب ہو۔

آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ زبور ۴ کی ۷ آیت میں یوں لکھا ہے:

تُو نے میرے دل کو اُس سے زیادہ خُوشی بخشی ہے

جو اُن کو غم اور مے کی فراوانی سے ہوتی تھی۔

ہر کوئی ان نعمتوں سے بے حد خُوشی حاصل کرتا ہے۔ ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اُس کے پاس زیادہ سے زیادہ دولت ہو، اُس کے پاس اجناس کے بڑے ذخائر ہوں، اُس کے پاس مے کی فراوانی ہو۔ اگر ایک سال میں آپ کی فصل اچھی ہو جاتی ہے تو آپ کُچھ سالوں کے لئے بے فکر ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ اُس وقت میں بے شمار مسائل تھے جن کا سامنا ہر ایک

انسان کو تھا۔ انہیں اچھی زندگی بسر کرنے کے لئے بہت جدوجہد کرنا پڑتی تھی۔ ان کے لئے ان کی اچھی فصل بہت زیادہ خوشی کا سبب ہوتی تھی، جب وہ اپنی فصل کو کاٹنا شروع کرتے تھے تو وہ خوشی منایا کرتے تھے۔ خدا درحقیقت انہیں ہمیشہ خوش دیکھنا چاہتا تھا اور وہ خود ان کے ساتھ مل کر خوشی منانا چاہتا تھا۔ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ خدا کی بے شمار صفات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ خدا خوشی منانا پسند کرتا ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم اُسکے لئے خوشی اور شادمانی کا سبب بنیں۔ اور اُس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ وہ گاتے ہوئے آپ کے لئے خوشی مناتا ہے۔

خدا کا بندہ داؤد اسی شادمانی کے لئے خدا سے دُعا کرتا ہے اور وہ اُس سے کہتا کہ اے خداوند تُو اپنا چہرہ ہم پر جلوہ گر فرما۔ وہ خدا کا مُسکراتا ہوا چہرہ دیکھنے کا خواہشمند تھا کیونکہ اُس کے مُسکراتے ہوئے چہرے میں اُس کی اور اُس کے لوگوں کی زندگی پائی جاتی تھی۔ یوں جب وہ یہ کہتا کہ تُو نے میرے دل کو خوشی بخشی تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ خدا نے اُس کی دُعا کو سُن لیا ہے اور اُس کے دل میں ایک اطمینان بخش دیا ہے جس کو اظہار وہ یوں کرتا ہے کہ تُو نے میرے دل کو اُس سے زیادہ خوشی بخشی جو اُن کو غلے اور مے کی فراوانی سے ہوتی ہے۔

اے آگے بڑھتے ہیں اور اس زبور کی اگلی اور آخری آیت کو دیکھتے ہیں۔ جہاں پر خدا کا بندہ داؤد یوں کہتا ہے کہ:

میں سلامتی سے لیٹ جاؤنگا اور سو رہوں گا

کیونکہ اے خداوند! فقط تو ہی مجھے مطمئن رکھتا ہے۔

یوں اُسے اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ سب کچھ بالکل اُسی طرح سے ٹھیک ہو جائے گا جس طرح کہ یہ پہلے تھا۔ وہ اس بات کو جان لیتا ہے کہ اُسی طرح سے میں خدا کے حضور میں خوشی مناؤں گا اور اُس کی رحمت کے گیت گایا کرونگا۔ اُس کی مہربانی سے میں بے فکر ہو جاؤنگا کیونکہ میرا بھروسہ اُس خدا پر ہے جو مجھے چھڑانے پر قادر ہے۔ اسی لئے وہ کہتا ہے کہ میں سلامتی سے لیٹ جاؤنگا اور سو رہوں گا۔ کیونکہ اے خداوند! فقط تو ہی مجھے مطمئن رکھے گا۔ اس آیت کے دونوں حصوں میں ایک تحفظ کا احساس پایا جاتا ہے۔ کیونکہ پہلے وہ سلامتی کی بات کرتا ہے اور پھر اس کے بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ اطمینان کی بات ہو رہی ہے۔ وہ خدا میں ایک اطمینان کے بارے میں بات کرتا ہے جس میں وہ رہے گا۔ وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ صرف ایک ہی ایسی ہستی ہے جو ایسا کرنے کی قدرت رکھتی ہے۔ وہ ہی اُسے اس بڑی مُصیبت میں سے نکالتے ہوئے سرفرازی عطا کرے گا اور سلامتی عطا کرے گا۔ وہ جانتا ہے کہ اُسے ایسا کرنے کے لئے کسی بڑے فوجی لشکر کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ مجھ میں قائم ہے اور میں اُس کے پروں کے سایے میں پناہ لیتا ہوں۔ وہ میرے دل کو اپنے الہی اطمینان سے بھر پور کر دے گا اور مجھے اپنی پناہ میں محفوظ رکھے گا۔

یوں یہ داؤد کی اس زبور میں کی جانے والی دعا کا آخری حصہ ہے جب وہ کہتا ہے کہ:

میں سلامتی سے لیٹ جاؤنگا اور سو رہوں گا
کیونکہ اے خُداوند! فقط تُو ہی مجھے مطمئن رکھتا ہے۔

آئیے اس کے ساتھ ہی ہم اپنی بات چیت کے اختتام کی جانب بڑھتے ہیں اور کچھ مشاہدات
کی روشنی میں اسے ختم کرتے ہیں۔

ہم نے اس سارے اقتباس میں اس بات پر غور کیا ہے کہ داؤد اپنے دُشمنوں کی وجہ سے ایک
بڑی مُشکل میں گرفتار ہے۔ اس ساری صورت حال میں وہ خُدا سے اپنے لئے
مدد مانگتا ہے لیکن وہ خُدا سے یہ نہیں کہتا ہے کہ تُو ان لوگوں کی عدالت کر۔ کچھ مزامیر
ایسے پائے جاتے ہیں جن میں سے ہم دیکھ سکیں گے کہ وہ ایسا کرتا بھی ہے لیکن اُن پر ہم
بعد میں بات کریں گے۔ لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے دُشمنوں کے لئے خُدا سے
سزا کا تقاضا نہیں کر رہا ہے۔ وہ اُن کے لئے بھی برکت مانگتا ہے اور خُدا سے چاہتا ہے کہ وہ
اُس کے ستانے والوں کو بھی برکت دے۔ کیونکہ وہ اُن کا بادشاہ تھا، خُدا نے اُسے اُن کا
بادشاہ ہونے کے لئے مسح کیا تھا۔ اور اُس کا یہ فرض تھا کہ وہ خُدا کے حکم کے مطابق اپنے
لوگوں کے لئے برکت کا سبب ہو اور وہ اُن کے لئے خُدا سے برکت مانگے۔ یہاں پر ہمیں
اُن لوگوں کا ذکر بھی ملتا ہے جنہیں قوم میں اچھے کاموں کو سرانجام دینے کے لئے مقرر کیا
جاتا ہے لیکن داؤد کے خلاف اس بڑی بغاوت میں وہ بھی اُس کے بیٹے ابی سلوم کے ساتھ
نکلے ہیں۔ لیکن وہ اُنہیں پکڑنا یا مارنا نہیں چاہتا ہے بلکہ وہ اُن کے دل کی تبدیلی چاہتا ہے۔

وہ خُدا سے ایسا کرنے کے لئے دُعا کرتا ہے اور ہم نے اس زبور میں اُس کی کی جانے والی دُعا کے الفاظ کو پڑھا ہے۔ وہ خُداوند میں اپنے لوگوں کے ساتھ خُوشی منانے کا خواہش مند ہے۔ وہ جانتا ہے کہ خُدا خُوشی منانا پسند کرتا ہے اس لئے وہ اُس خُوشی کا اظہار کرتا ہے جو خُدا نے اُس کی دُعا کے بدلے میں اُس کے دل میں ڈالی تھی۔

اگرچہ اُس کے ساتھ کے کچھ لوگوں میں اس بات کو بھی پایا گیا تھا کہ وہ حوصلہ ہار گئے تھے اور وہ یہ سوچتے تھے کہ کون ہمیں بچائے گا اور ہم کیسے حوصلہ اور تقویت پائیں گے۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ خُدا نے اُنہیں خُوشی اور حوصلہ دیا تھا۔ اور اس زبور کی آخر میں ہم اس بات کا اقرار داؤد کے مُنہ سے سُنتے ہیں کہ خُدا نے اُسے خُوشی عطا کی اُن سے زیادہ جو اپنے غم اور مے کو دیکھ کر خُوش ہوتے ہیں۔ خُدا نے اُسے سلامتی کا احساس دلایا، اُسے اپنا اطمینان بخشا تھا۔ پُرانے عہد نامے میں اور نئے عہد نامے میں سے اور حتیٰ کہ آج بھی ہم اس بات کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں مشکلات سے بھری پڑی ہیں۔ اور کبھی کبھی تو باہر نکلنا ہمیں ناممکن دکھائی دیتا ہے۔ لیکن ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہمارا خُدا کوئی چھپا ہوا خُدا نہیں ہے۔ وہ مہربان ہے، وہ ہمارے مسائل میں ہمیں تنہا نہیں چھوڑ دیتا ہے، وہ ہمارا اچھا چرواہا ہے جو ہمیں کبھی بھی بھٹک جانے نہیں دیتا ہے۔ وہ مخالفوں کے مُقابلے میں ہمیں کبھی بھی اس بات کا احساس نہیں ہونے دیتا ہے کہ ہم اُس کی نگاہ میں نہیں ہیں۔ وہ اپنے لوگوں کی فکر کرتا ہے اور اُنہیں سنبھالتا ہے۔ اُس نے اپنے بٹے کے وسیلے اپنے پیار کو ہم پر ظاہر کیا ہے۔

اُس نے اپنے بیٹے کے وسیلے ہمیں اپنا فضل اور آزادی بخشی ہے۔ اُس نے ہمارے تمام گناہوں کو ہم سے دھو دیا ہے۔

تو اس چوتھے زبور میں سے ہم نے دیکھا ہے کہ داؤد خُدا پر اپنا بھروسہ رکھتا ہے، وہ اُس میں تسلی اور اطمینان پاتا ہے اور اُس میں پائے جانے والے اپنے تحفظ کا اقرار کرتا ہے۔ وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اگر خُدا اپنے چہرے کو ہم پر جلوہ گر فرماتا ہے تو ہم زندہ رہیں گے۔ آئیے ہم خُدا کے حضور میں جھکیں اور اس سارے کلام کے لئے اُس کا شکر ادا کریں اور اُس سے منت کریں کہ یہ ہمارے لئے اور دوسروں کے لئے برکت کا سبب بنے۔

خُداوند ہمارے آسمانی باپ ہم تیرے چہرے کے لئے جو تُو ہم پر جلوہ گر فرماتا ہے تیرے شکر گزار ہیں۔ ہم تیری خوبصورت مُسکراہٹ کے لئے اور تیری ابدی رحمت کے لئے تمہ دل سے تیرا شکر کرتے ہیں۔ خُداوند ہم تجھ سے منت کرتے ہیں کہ ہمیں ایک ایسا دل عطا کر کہ ہم تجھے بہتر طور پر سمجھ سکیں۔ اور تیری پہچان کو دوسروں تک پہنچانے کا وسیلہ بن سکیں تاکہ اُن کو تیرے پاس لانے کے لئے اُن کا حوصلہ بڑھا سکیں۔ تیرے کلام کے لئے تیرا شکر ہو جسے تُو نے اپنے بندے داؤد کی معرفت ہم تک پہنچایا ہے۔ تیری مہربانی اور تیرے پاک کلام کے لئے تیرا شکر ادا کرتے ہیں جس کے وسیلے سے ہم تیرے ساتھ وقت گزار سکتے ہیں۔ ان تمام لوگوں کو برکت دے اور بخش کہ یہ اپنے دلوں میں تیری کامل خوشی کو حاصل کریں۔ ہم منت کرتے ہیں اُن تمام مسائل کے لئے جن کا ہم میں سے ہر ایک کو شخصی طور پر

سامنا ہے۔ تُو ہماری مدد کر ہم تجھ ہی پر توکل کرتے ہیں۔ ہم اپنی تمام مُشکلات، مسائل، پریشانیاں، گھبراہٹ، بے چینی تیرے سامنے پیش کرتے ہیں۔ خُداوند ہمیں اپنا الہی اطمینان اور سلامتی عنایت کر۔ کیونکہ ہم اِس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ تُو کبھی بھی اپنے لوگوں کو تنہا نہیں چھوڑتا ہے۔ خُداوند تیرا نام مُبارک ہو ہماری دُعا کو سُن۔ ہم یہ سب کُچھ تیرے پیارے بیٹے ہمارے خُداوند یسوع مسیح کا نام لیتے ہوئے مانگتے ہیں آمین۔